Tillassam-i-Ruhani
by
Husain Ahmad

ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ

حسب فرمائش جناب اخوی حاجی محمد عبد القیوم صاحب تاجر کتب کلکتہ قریب مدرسہ

طلسم روحانی

١٣٢٦

١٩٠٨ء

باہتمام راجی رحمۃ ارحم الراحمین محمد فخر الدین مالک مطبع ابن جناب حاجی محمد یعقوب مرحوم

مطبع فخر المطابع واقع لکھنؤ طبع شد

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

الحمد للہ العلی العظیم والصلوٰۃ علی رسولہ وحبیبہ محمد ذی الشرف والتعظیم والتکریم والصلوٰۃ والسلام علی آلہ واصحابہ اولی العزۃ والتکریم اما بعد بندہ امیدوار فضل سرمدی حسین احمد ولد منشی جمال احمد غفر اللہ ذنوبہما خدمت شائقان علم غریب مین عرض رسا ہی کہ اکثر اشخاص اس امر کے شائق دیکھے گئے کہ کوئی رسالہ مستند ایسا مطبوع ہو جو ہر طرح کی خواب کا مجموع ہو حسب اصرار شائقان کا بیچ ہوا اسوقت اس کمترین نے کتب متقدمین مثل کتاب انیال نبی علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور رسالہ مستند محمد بن سیرین علیہ الرحمۃ اور چند رسائل دیگر معتمد سے مسودہ درست کیا اور بعد نظر ثانی اُن مضامین مستخرجہ کو بہ ترتیب حروف ہجا جدول مین تحریر کیا چونکہ یہ رسالہ مشحون مضمون سیر و سیاحت روح نفسانی ہی اسلیے اسکا نام طلسم روحانی رکھا

تعبیر دینے والے کے آداب اور تمیز و معرفت خواب اور اوسکے اصول مین

ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا حضرت صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم نے رویا المؤمن جزء من ستۃ و اربعین جزء من النبوۃ یعنے خواب مومن کا ایک جز ہے چھیالیسوین جزء نبوت سے پس معبر لصفات چند موصوف ہونا چاہیے اول قرآن مجید کا عالم ہو دوم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کا حافظ ہو سوم زبان عربی و اشتقاق لفظی سے واقف ہو چہارم قیافہ شناس مردم ہو پنجم ماہر اصول تعبیر ہو ششم متقی و نیک سیرت ہو ہفتم راست گو ہو جاننا چاہیے کہ خواب کبھی تعبیر دیا جاتا ہے اوپر مختلف زبان اور مختلف اوقات کے اور کبھی مانند مثل کے اور اکثر تعبیر مثل یا اُسکے ہمنام سے دی جاتی ہے اور کبھی تعبیر لفظ اسم اور معنی اسم اور کبھی ضد شے سے اور کبھی اشتقاق و مشتقات سے اور کبھی زیادت یا نقصان سے اور کبھی آیات قرآن مجید سے مثلاً دیکھنا بیضہ مرغ وغیرہ کا کہ تعبیر اُسکی زن جمیلہ سے ہے بقولہ تعالی کَاَنَّہُنَّ بَیۡضٌ مَّکۡنُوۡنٌ یا پتھر کا دیکھنا کہ تعبیر اُسکی سنگدلی ہے بقولہ تعالی ثُمَّ قَسَتۡ قُلُوۡبُکُمۡ مِّنۡۢ بَعۡدِ ذٰلِکَ فَہِیَ کَالۡحِجَارَۃِ اَوۡ اَشَدُّ قَسۡوَۃً یا گوشت تازہ کا دیکھنا کہ تعبیر اُسکی غیبت ہے بقولہ تعالی اَیُحِبُّ اَحَدُکُمۡ اَنۡ یَّاۡکُلَ لَحۡمَ اَخِیۡہِ

اَیتما فکرہتموہ یا استخوان پہلو کا دیکھنا کہ مراد زن سے ہے بقول آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
المرأة خلقت من ضلع اعوج اور مثل اسکے مثال بیشمار ہین اور تعبیر از روی اسم وہی اور اسم پر
خیال ضرور کرے **بیان اوقات** جاننا چاہیے کہ راست ترین اوقات خواب کے آخر شب
اور دن کو بعد کھانا کھانے اور آرام کرنے کے ہین اور راست ترین زمانہائے خواب درخت
اور میوہ پختہ ہونے کے ہین اور سست ترین زمانہائے خواب فصل شتا و آمد موسم بارش ہے
تعبیر دینے والے کو لازم ہے کہ کلام صاحب خواب کا خوب سمجھ لیوے اور خیال کرے کہ کلام مسلسل
ہے صحیح ہے اُسکی تعبیر از روے اسم یا بآیۂ قرآنی یا کتاب ہذا سے دے در صورت
کلام بے ربط کچھ تعبیر نہ دینا چاہیے اور در صورت شبہہ ضمیر
صاحب خواب کی دریافت کری اور موافق اُسکی نیت
کے تعبیر دے مگر خیال رکھے کہ تعبیر بد ہی تو بتعبیر
نیک دینا چاہیے اور جب اصول خواب
کے خوب ثابت ہو جاوین کہ جنس
سے ہے یا صنف ہے
تو موافق اوسکے
تعبیر دے

ردیف الف

خواب	تعبیر خواب
انوار خدا دیکھنا	مومنونکو راحت نصیب ہو اور آزادی نہایت شادی ہو
اللہ کی جناب مین قبولیت اور اُسکو متوجہ و ملتفت دیکھنا	دنیا بخیر و عافیت مین خدا مہربان ہو۔
اللہ کا متاع دنیا سے کچھ دینا	مرض و بلا مین مبتلا ہو مگر اُسکے اجر مین داخل جنت ہو
اللہ کو کسی مکان معین مین نازل ہوتے دیکھنا	اُس مکان کے باشندون کو خیر و فرح و نصرت ہو
اللہ کا زجر و نہی یا وعدہ وعید کلام کرتے دیکھنا	اعمال بد سے توبہ کرے اللہ انجام بخیر کرے
اللہ کو اپنے فرش اور بستر پر دیکھنا	کرامت و رحمت خدا سے مستفید ہو۔
ابر محیط آسمان پر دیکھنا	بلائے سخت نازل ہو رنج و پریشانی حاصل ہو
اللہ کو کسی صورت مثالی یا خیالی یا کسی شکل سے متمثل دیکھنا	فعل بد سے توبہ کرے داخل جنت ہو
اللہ کو ناقص الخلقۃ یا بتون کے طور پر دیکھنا	جلد توبہ و استغفار کرے۔
انبیا علیہم السلام کو خواب مین دیکھنا	سرداری پائے یا دفینہ ہاتھ آئے۔
آپکو بجای کسی نبی کے فائز دیکھنا	دنیا مین سختی و مصیبت آخرت مین فراغت و راحت ہو
اصحاب کبار رضی اللہ عنہم کو دیکھنا	برکت حاصل ہو بڑے دیندارون مین شامل ہو
ائمہ معصومین علیہم السلام کو دیکھنا	دنیا و دولت دار ہو آخرت مین بیڑا پار ہو
اولیا و ابدال رحمہم اللہ کو دیکھنا	دلیل اقبال موجب زیادتی نیک اعمال ہے
آسمان پر بلا صعود آپکو دیکھنا	شہادت کو جلد پائے دنیا مین جلد شرف حاصل ہو

ردیف الف

خواب	تعبیر خواب
ابر پر قادر یا فراہم کرنا یا اُسکے اندر داخل ہونا۔	عمدۂ جلیلہ وامر عظیمہ پر فائز ہو۔
ابر آسمان پر دیکھنا	بادشاہ یا حاکم مہربان یا حکیم دعالم فیض رسان ہو۔
ابر بغیر تاریکی یا تند ہوا یا ہول وہیبت دیکھنا	دلیل علم حکمت ورحمت ہے یا ترقی دین اسلام کی ہے۔
آسمان دیکھنا	مرتبۂ بلند ہو یا فرزند ارجمند ہو
آسمان پر چڑھ جانا اور اُس مین داخل ہونا	فائز بہ شہادت وکرامت خدائے عز وجل ہو۔
آفتاب کو ابر و گرد مین چھپا دیکھنا	مرض ومصیبت ملک پر کسی ایک کے والدین پر واقع ہو۔
الائچی یا اخروٹ پانا	سوداگری مین نفع کثیر پا گیا یا شریک سعید و بے نظیر پاوے

خواب	تعبیر خواب
آفتاب پر چنگل مارنا اور اُسپر دسترس پانا دیکھنا	حسب مقدار مالک مُلک ہو بشرطیکہ آفتاب صاف وشعاع بھی رکھتا ہو۔
آفتاب کا نور وشعاع اپنے اوپر پڑتے دیکھنا۔	مالک ملک وغلبہ حاصل ہو۔
آفتاب کو حالت خسوف مین دیکھنا۔	بادشاہت مین کوئی حادثہ یا نسبت ایک کے والدین سے واقع ہو
آفتاب سے اپکو نزاع کرتے دیکھنا	بادشاہت مین یا ساتھ ایک کے والدین سے نزاع ہو
آفتاب کو اپنے مکان مین طلوع ہوتے دیکھنا	مرد بے زن نکاح کرے زن دار کو جانب ملوک سے افزائش روزی ومرتبہ ہو۔
انار کا درخت لگانا اور بلند وسایہ دار ہونا	شرف وعزت حاصل ہو

ردیف الف

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
ازار یا ازار بند دیکھنا	عورت نئی ملے شادی ہو غم سے آزادی ہو	انار شیرین تمام یا کسی قدر کھانا	دلیل جمعیت ہر شئے کی ہے۔
اشرفی پانا یا دیکھنا	فرزند ارجمند ہو یا نفع تجارت سے بہرہ مند ہو	انجیر کھانا	مال حلال اور دولت لازوال حاصل ہو
اونچی جگہ پر چڑھنا	رتبہ بلند ہو نہایت خرسند ہو۔	انجیر کا پتا دیکھنا	باعث پریشانی ہو اندیشے کی نشانی ہو۔
اناج خشک کھانا	مفلسی مین مبتلا ہو رنج کا سامنا ہوئے	انگور کا عرق پیتے دیکھنا	اگر متقی ہو شرابی ہو جائے۔
انار شیرین پانا	معشوق سے شربت وصال پائے یا مریض ہو تندرست ہو جا	انگور کا باغ یا درخت یا عرق نچوڑتے دیکھنا	عورت ملے اور خدمت بادشاہی پر فائز ہو۔
انار ترش کھانا	دوستون سے ترش روئی حاصل ہو نیکی کرے برائی شامل ہو	انگور سرخ و سفید دیکھنا	فصل مین دیکھے خیر و برکت ہو غیر فصل رنج و غم مین مبتلا ہو
انار کا درخت دیکھنا	بے نوکر ہو نوکری ہو جائے یا بیوی بار لائے۔	اذان غیر ایام حج مین دیتے دیکھنا	اخبار و احوال صحیحہ و طیبہ لوگون مین بیان کرے
اپنی عورت کو دختر یا پسر جنتے دیکھنا	جو دیکھے اُسکے برعکس ہو	اذان کہتے ہوئے آپکو دیکھنا	فاسق و فاجر ہو توبہ تائب ہو جائین صالح ہو حج نصیب ہو
انگور کے دانے شمار کر کے کھانا	چیچک و خارش مین مبتلا ہو یا تازیانے پڑین	اندھے کو دیکھنا	ملال ہو سفر در پیش ہو ایمان دار بے ایمان ہو جائے جلد اپنے کیے پر پشیمان ہو۔
انگور خشک ہر قسم کا دیکھنا	باعث خیر و منفعت کا ہے۔		

خواب	تعبیر خواب
آلو بخارا کھانا	مرض مین مبتلا ہو کلفت کا سامنا ہو۔
آم کھانا	اولاد حاصل ہو مفلس ہو تو انگر ہو جائے
افسون خوان کو دیکھنا	دولت و حکومت حاصل ہو
اذان بیوقت دیتے دیکھنا	ظلم و جفا کا پیشہ اور ہر ایک پر بداندیشہ کرے
اذان ماہہای حج مین کسی وقت دیتے دیکھنا	حج نصیب ہو دین مین فراغ ہو۔
آب جاری دیکھنا	کسی بڑے کام مین پیش ہو معینہ بیش ہو
آب مکدر دیکھنا	غم و اندیشہ لاحق ہو مبتلاے فکر لواحق ہو۔
آب مصفا دیکھنا	صحبت بزرگ سے فائدہ مند ہو در فتنہ و فساد بند ہو
آب شور دیکھنا	جلد رنج مین مبتلا ہو قید فرنگ کا سامنا ہو

خواب	تعبیر خواب
آپ کو اندھا دیکھنا	نیک کاموں سے چشم پوشی بد کاموں سے ہم آغوشی رہے
اندھیارا دیکھنا	حاکم وقت پر آفت آئے یا غم فرزند اُٹھائے،
انگشتری سے نگینہ گرا ہوا دیکھنا	حکومت سے خالی ہو رنج و دمان حالی ہو
انگشتری پہنے ہوئے دیکھنا	کسی معشوق سے ہم آغوشی ہو نہایت گرمجوشی ہو
اونچی جگہ سے اُترتے دیکھنا	عہدہ بڑا جاتا رہے غم اور غصہ کھاتا رہے۔
آدمی کا گوشت کھانا	مال حرام کھاے پریشانی اُٹھائے۔
آرگن باجا سُننا	افسر فوج ہو نہایت اوج ہو۔
اُولا کھانا	باعث حیرانی ہے سبب پریشانی ہے۔
اسپ سے گرتے ہوئی دیکھنا	عہدے سے معزول ہو نہایت ملول ہو۔

ردیف الف

خواب	تعبیر خواب
آواز خوش سُننا	داہنی جانب سے حافظ قرآن ہو بائین جانب سے علم موسیقی سے دل شاد ہو۔
آگ جلا کر کچھ پکانا	نفع بحیاب ہو فضول خرچ سے اجتناب ہو
آگ کھانا	مال حرام کھائے مگر نہایت پریشانی اُٹھائے
اپنے تئین قتل کرتے دیکھنا	درازی عمر کی دلیل ہے صحت ہو اگر علیل ہے
آتش زدگی مع شعلہ وصدائے ہولناک دیکھنا۔	مرض سرسام یا چیچک و طاعون عارض ہو۔
آتش زدگی مع شعلہ وصدائے ہولناک زمین پست مین دیکھنا	موت کا بازار گرم ہو۔
آتش پرستی کرتے دیکھنا	دنیا و دین خراب ہو مال حرام کا خواستگار ہو

خواب	تعبیر خواب
اشتر پر سوار ہونا	سفر حج پیش آئے نعمت بیش پائے۔
آلت کٹا دیکھنا	کسی محسل سے توسل ہو ثبات متزلزل ہو
آلت کو زلزلے مین دیکھنا	باعث زبونی ہے۔
اپنا مکان زلزلے مین دیکھنا	اُس مکان مین زنا ہو قہر آلہی کا سامنا ہو۔
آتش زدگی کسی محلہ یا شہر یا مکان مین دیکھنا	جور و ستم اُس سرزمین پر واقع ہو۔
آگ کا آسمان سے اُترنا اور اُس مین دھوان ہونا	بہ نسبت سختی کے آسانی ہے۔
آگ کا کسی جگہ سے طرف آسمان کے بلند ہونا۔	حق تعالیٰ پر افترا اور بہتان کرنے کی دلیل ہے
آگ جلنا اور کوئی شی خود یا غیر کو بریان کرتے دیکھنا	جس چیز کا سامان کرے اُس سے منتفع ہو فقر دفع ہو

خواب	تعبیر خواب
آگ کا بغیر شعلہ و لپک کے کچھ جلانا کچھ چھوڑنا۔	حادثات عجیب و امراض غریب وہان واقع ہون۔
آگ کا آسمان سے اُترنا اور کچھ نہ جلانا	سختی زمانی ہے نہ ضرر جسمانی۔
آتش سوزان پر دیگ خالی دیکھنا	کوئی امر مکروہ کرے۔
آگ سے کپڑا یا عضو دیگر جلجانا	کوئی مصیبت لاحق حال ہو
انگارے چبانا۔	مال یتیم کھاوے
ائمہ رنماز کی قوم کی امامت کرنا	کسی جماعت کا متولی ہو بشرطیکہ قبلہ رُخ ہو ورنہ ظالم ہوگا
آگ شعلہ دار کھانا۔	مال یتیم کھائے مگر اُسکے مواخذہ مین ماخوذ ہو جائے
آگ کا اُترنا اور غار مین فرو ہونا	صاحب خواب کی لوگ غیبت کرین۔
آگ مین گوشت بریان کرتے اور کھاتے دیکھنا	غیبت مردم سے پاک و بری ہو اور رزق کم و رنج وزیر یاری بڑی ہو۔
آتش سوزان پر دیگچے مین کھانا پکانا	منفعت مکان سے محروم رہے۔
آخروٹ کھانا	مکالمہ و مخاصمہ ہو وزی بے مشقت حاصل ہو
اسپ کا گوشت کھانا	نیک نام و فراخی رزق حلال ہو
اسپ نامعلوم کو دیکھنا	عظیم القدر و ہر دل عزیز ہو۔
اسپ کو کسی محلہ یا مکان مین دیکھنا	کوئی بزرگ اُس مکان مین وارد ہو
اسپ کو اپنے مکان یا محلے سے نکلتے دیکھنا	وہ شخص نقل مکان کرے یا مرجاوے۔
اسپ شتر و بیل کو نرم گردن و تابع لگام دیکھنا۔	جس امر مین سعی و کوشش کرے موافق ہو

ردیف الف

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
آگ سے داغ کرنا	کوئی شخص سخت کلامی و بدزبانی کرے۔	اشتر پر سوار ہونا	دشمن پر غالب ہو۔
انگارے برسنا	جس پر پڑین اسکو گزند و عذاب پہونچے۔	اشتر مادہ پر سوار ہونا	عورت اُس کی عقیمہ رہے
آگ کا بازار یا دوکانون مین لگنا	بابت خرید و فروخت کے آپس مین نفاق پڑے قیمت بعد نزاع حاصل ہو	اسپ سرکش و منہ زور پر سوار ہونا	کوشش بے فائدہ ہو تنزل مراتب ہو۔
اعضائے نامعلوم کا دیکھنا	دیدار ملائکہ علیہم السلام کی دلیل ہے	آدمی کا مغز دیکھنا	مال و خزانہ حاصل ہو۔
امور مجتمعہ و حصول مقاصد مطالب دیکھنا	تعبیر احوال و نقصان امر پر دال ہے	آدمی کا مغز کھانا۔	جس کا مغز کھائے اُس کا مال کھائے
آسیابان و آسیاگردان دیکھنا	فاجر و مکار ہو۔	آدمی یا حیوان کا مغز کھانا	غیر کی کمائی کھائے چشمون مین ندامت اُٹھائے۔
اولاد وحشیان ماکول اللحم کا پانا	دلیل بغلمان و خدام ہے	آدمی کا گوشت پختہ یا بریان کھانا	جس کا گوشت کھائے اُسکی غیبت زبان پر لائے۔
آرد جو و گندم وغیرہ کا دیکھنا	دلیل مال اندوختہ و فراغ بالی ہے	اذن یعنی گوش کا دیکھنا	کسی عورت سے نکاح کرے وہ حلقہ بگوش رہے۔
آرد مخمر دیکھنا	کثرت نسل و اثمار باغ کی دلیل ہے زراعت کو افزایش فراخی رزق بعد تعب و محنت ہو	اذن کی زیادتی ساتھ زیور اور جواہر کے دیکھنا	نکاح دختر کی فال نیک بدل زوجہ پر دال ہے۔

ردیف الف

خواب	تعبیر خواب
آب خرما وغیرہ کا دیکھنا	مال مکروہ ومشتبہ بدقت ورنج حاصل ہو
آواز آدمی کی سننا	آوازہ وشہرت درمیان خلائق کی بلند ہو وبلندی وپستی آواز نسبت اُسکے بخت ونعمت کے متصور ہو
آنکھ یا نگاہ مین کمی یا زیادتی دیکھنا	دین کی کمی وبیشی ہو ضعف بصر وآشوب وسبلان چشم وغیرہ
آنکھون مین سرمہ لگانا	اصلاح دین کی ہو اور آدمیون مین اُسکے دین کی رونق وزینت ہو
اشتعار العین جابجین یعنی کن انکھیون سے دیکھنا	سلامت روی ونیک حالی دین کی دلیل ہے۔
اپنا تمام مکان یا کسیقدر منہدم دیکھنا	موت کی دلیل ہے۔
انگشتان دست دیکھنا	اولاد وبرادرزادگان وخواہرزادگان ہے یا نماز پنجگانہ پر قائم ہو
انگشتان پا دیکھنا	آرایش دنیا ومال حاصل ہو۔

خواب	تعبیر خواب
آدمی کی ساعت کو زائل وکم دیکھنا	کمی وبیشی دین مین واقع ہو
انگشتری دیکھنا	تعبیر بمال وملک ہے
انگشتری مین خلل دیکھنا	جاہ ومال وغیرہ مین خلل واقع ہو
انگشتری کسی سے پانا	مال وغیرہ حاصل ہو اگر بادشاہ ہو ملک حسب خواہش ملے
انگشتری چھن جانا	جن چیزون کا مالک ہو وہ جاتی رہین۔
انگشتری چوری جانا یا چھن جانا	اُسکے کاروبار مین خلل پڑے یا کوئی صدمہ واقع ہو۔
انگشتری کا شکست ہوجانا	جس چیز پر قادر ہے جاتی رہے۔
انگشتری سونیکی دیکھنا	انگشتری مذکورہ ملے۔
انگشتری لوہے کی دیکھنا	کوئی خدمت بادشاہ کی طرف سے ملے۔
انگشتری کانسہ وپیتل کی دیکھنا	جس چیز کا مالک ہو وہ خوار وحقیر ہو۔

ردیف الف

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
اکل و شرب کے ظروف دیکھنا	خیام و غلام کی دلیل ہے۔	اسپ پر سوار ہو کر قدم چلانا	غلبہ و بزرگی حاصل ہو۔
آئینہ دیکھنا	اگر عورت حاملہ ہے لڑکا جنے یا اپنی خدمت سے معزول ہو	اسپ کا پانا	غلبہ و بزرگی حاصل ہو۔
آتشدان و دیگ وغیرہ دیکھنا	دلیل غم ہے۔	اسپ کے زین و لجام و رکاب وغیرہ مین کمی دیکھنا	نقصان مراتب ہو
آئینہ دیکھنا عورت کا	اگر حاملہ ہے دختر اپنی صورت کی جنے ورنہ دوسرا عقد کرے		
آئینہ دیکھنا طفل یا دختر صغیرہ کا	اسکی مادر دختر یا لڑکا جنے۔	اسپ کی دم لمبی یا بھاری دیکھنا	خدم و حشم بقدر طوالت و حجم حاصل ہو
آبگینہ دیکھنا	جوہر و ماہیت عورت پر واقف ہو یا کنیز و غلام ملین۔	اسپ دم بریدہ دیکھنا	خدم و حشم مین کمی ہو۔
آبابیل دیکھنا	کسی مرد بزرگ سے متمتع ہو	اسپ کی تمامی اعضا دیکھنا۔	شوکت و دبدبہ حاصل ہو
اسپ دیکھنا	حکومت و ریاست پائے عہدہ بڑا ہو۔	اسپ کا شوخی کرنا یا شور کرنا	مرتکب معصیت ہو اور امر ہولناک کو پہنچے
اسپ سے گرتے ہوئے دیکھنا	عہدے سے معزول ہو نہایت ملول ہو۔	اسپ سوار درمیان آسمان اور زمین کے پران یا شہپر دیکھنا	دنیا اور آخرت مین کامیاب ہو
اسپ کا شہر یا کوچہ مین دوڑنا	سیلاب و شدت بارش کی ہو اگر زمین بھی ہی تو رنج و خوشی توام ہو		

ردیف الف

خواب	تعبیر خواب
اسپ ابلق و نقرہ دیکھنا	جس حال مین ہے اُسی حالت مین رہے
اسپ پشکی دیکھنا	مال و سرور حاصل ہو
اسپ کمیت دیکھنا	قوت صلاح و دین حاصل ہو۔
اسپ گندم گون دیکھنا	زمین سخت مین گردش و گشت کرے۔
اسپ سبز رنگ دیکھنا	جمیع آفات سے امین رہے۔
اسپ پر حریف دیکھنا	حریف اُسکے کام مین دخل کرے۔
اسپ مادہ کا مالک یا اُسپر سوار ہو	زن شریف و مبارک ملے۔
اسپ مادہ سفید مائل بسیاہی دیکھنا	عورت مالدار و جمیلہ ملے۔
اسپ مادہ سبز رنگ دیکھنا۔	عورت شاہدہ و مغنیہ ملے اور جو حادثہ اُسکی نسبت دیکھے وہ نسبت ہو۔
اسپ مادہ پشکی دیکھنا	عورت مالدار و جمیلہ ملے۔

ردیف باے موحدہ

خواب	تعبیر خواب
بزرگان دین کو دیکھنا	خیر و برکت کی دلیل امید عنایت رب جلیل ہے۔
بادشاہ کو غیر مشہور جگہ دیکھنا	اُس جگہ آفت آئے زراعت برباد ہو جائے۔
بادشاہ کو عنایت کرتی ہوئی دیکھنا	دولت و نعمت پائے توقیر و عزت بڑھ جائے۔
بادشاہ کو غصے مین دیکھنا	غم و اندیشے کی نشانی ہے قدر حشمت کی سرگردانی ہے
بت چاندی و سونے و چوبی کی پرستش کرتے دیکھنا	کسی عورت کو الزام لگائے خبیث و زنا کا کھلائے۔
باغ دیکھنا	سبز دیکھے تو موجب دولت ہے خشک کلفت ہے۔

ردیف باے موحدہ

خواب	تعبیر خواب
بال سر کے کٹے دیکھنا	قرضدار ہو قرض ادا ہو جائے یا سفر حج میسر آوے۔
بالون کو تمام بدن پر دیکھنا	بقدر کمی بیشی مال مردم ملے یا زراعت کی زیادتی ہو
بال اپنے سفید دیکھنا	دلیل زیادتی عمر و حرمت و سبب زیادہ خیر و برکت ہے
بال بکھرا ایام حج مین منڈانا	اُسکا یا اُسکے رئیس کا مال تلف ہو یا اپنے کام سے بیکار رہے
بھینس دیکھنا۔	کوئی بلاے سخت نازل ہو رنج و مصیبت شامل ہو
باران رحمت برستا	غلے کی ارزانی ہے خدا کی مہربانی ہے۔
بت پرستی کرتے دیکھنا	احکام الٰہی پر بندش و شرابخواری و زناکاری کی روش اختیار کرے
بالون کا دراز ہونا	تاجر کو نفع مزارع کو افزایش سپاہی کو سرداری ہو اگر کچھ نہین تو غم و الم ہے۔
بال سفید کا سیاہ دیکھنا	باعث خرابی ہے۔

خواب	تعبیر خواب
بہرا آپ کو دیکھنا	علم دین مین نقصان ہو کمال پشیمان ہو۔
بلبل دیکھنا	حاکم سے نفع کی دلیل ہے مگر قلیل ہے۔
بت آہنی کی پرستش کرتی دیکھنا	دین خراب دنیا کا طالب ہو۔
بالون کو چہرے پر چھوٹا ہوا دیکھنا	توانگر کو نقصان مال ہو مفلس کو جان کا وبال ہے
بالون کا غیر مقام پر نکلنا	مقروض ہو سختی و مشقت کھینچے۔
بالون مین نورہ لگانا۔	مالدار نادار ہو محتاج توانگر ہو مریض شفا پاوے۔ مقروض ہو قرض سے نجات پاوے۔
بیضۂ مرغ دیکھنا	فرزند ارجمند ہو در رنج بند ہو۔
بانسری بجانا۔	سبب پریشانی ہے اندیشے کی نشانی ہے۔
بکتے آپ کو دیکھنا.	فقیر توانگر ہو جائے توانگر پریشانی اٹھائے۔

ردیف بائے موحدہ.

خواب	تعبیر خواب
بال مونچھ و بغل و زہار وغیرہ کے منڈاتے دیکھنا	افزونی مال و ترقی دین ہو یا ولایت و حکومت نصیب ہو۔
بادام کھانا یا دیکھنا	دولت سے مسرور ہو کلفت دور ہو
بازو کٹا دیکھنا	بھائی یا عزیز کا رنج اٹھائے ملال و غم پیش آئے
برف گرتے دیکھنا	موسم میں زیادتی مال ہے غیر موسم میں رنج و نکال ہے
بھوکا آپکو دیکھنا	قرض کی نشانی ہے باعث حیرانی ہے۔
بیل کا گوشت دیکھنا	اگر زراعت یا آب کشی کا ہے مال حاصل ہے
بیل کو ذبح کرنا اور گوشت تقسیم کرنا	وہ فوت ہو اور مال اسکا تقسیم ہو۔
بچھڑے کو ذبح کرنا۔	بظلم و قہر مال کسی کا بجین حیات کھا جاوے ذرا سا نفس و ڈکار نہ آوے۔

خواب	تعبیر خواب
بالائی کھانا	مال بالائی پاوے مگر جلد ملال سامنے آئے۔
بیل فربہ دیکھنا	موجب ارزانی غلہ ہو اگر برعکس دیکھے سبب گرانی ہے۔
بیل پر سوار دیکھنا	عورت دیکھے کسی سے نکاح کرے شوہردار ہو شوہر پر غالب ہو
بیل کے سینگ دیکھنا	مال و عزت و سلاح ملے۔
بیل کے سینگ شکست ہو جانا	خدمت مقررہ سے معزول ہو۔
بیل کا سینگ مارنا	اپنے عمل سے معزول ہو ضرر و گزند حصول ہو۔
برج دیکھنا	خوف و آفت کی نشانی ہے۔
برنج دیکھنا یا کھانا	رنج دور ہو سرور موفور ہو
بیمار آپ کو دیکھنا	عبادت میں خلل ہو رنج بر محل ہو۔
بھیڑیا دیکھنا	بادشاہ ظالم حاکم ہو۔

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
ردیف باے موحدہ			
بندر و بلی کا پنجہ مارنا	بیماری کی علامت کم عمری کی دلالت ہے	بھیڑی کا دودھ پینا	خیر کثیر پائے محتاج ہو تو تونگر ہو جائے۔
بردہ بیچتے دیکھنا	افلاس کی نشانی ہی موجب رنج و حیرانی ہی	بلی کا اپنے یا غیر کے گھر مین داخل ہونا۔	اُسکے گھر سے مال چوری جائے۔
بردہ خریدنا	حاصل سرور ہو فکر دور ہو۔	بلی کا غرانا	صدمہ مرض اُٹھائے مغلوب دیکھے جلد آرام پائے
بچھونا زمین پر بچھانا	عمر دراز ہو و راحت باز ہو۔	بندر کو دیکھنا	نہ نفع نہ ضرر ہی مگر غالب ہونا پر خطر ہے
بلی کا دانت مارنا	مرض کو طول کمال ہو قیام ایک سال ہو۔	بلی یا بکری کا گوشت پکا ہوا کھانا	روزی فراخ ہو۔
بزازی یا بزاز و دیکھنا	باعث خطر عظیم ہی یا شاعر و دانشمند و حکیم کی دلیل ہے	بکری کا گوشت خام یا پختہ کھانا۔ یا اُس سے آدمی کو مارنا	کسی کی غیبت کرے یا مال کھاوی یا دشنام دہی کرے۔
بھیڑی دیکھنا	عورت شریف و صاحب نصیب ملے	بکری کا گوشت بریان کرنا	روزی برنج و تعب پہونچے۔
بھیڑ یا بار اوہ خورش گوشت ذبح کرنا	عورت شریف و مالدار سے خیر و مال حاصل کری	بکری کی کھال کشیدہ کسی کے گھر مین رکھا [illegible]	جس مقام پر دیکھے وہان کوئی شخص مرجاوے۔
بھیڑ کی چربی و گوشت و پوست و پشم و پشمینہ وغیرہ پانا	یا مال غنیمت ملے		

ردیف باے موحدہ

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
بزہ وبزغالہ پانا	فرزند ارجمند پیدا ہو	بکری کے اعضا دیکھنا	برادر یا پسر یا عزیزون سے کوئی مرجاوی۔
بزہ وبزغالہ بغیر قصد گوشت	پسر یا کوئی عزیز مرجاوے	بیضے بدون زردی کے کھانا	از زنان جمیلہ وعفیفہ کی مباشرت سے محفوظ ہو
کے ذبح کرنا۔		بڑھئی کو دیکھنا	لوگون پر ظلم کرے
بزے کا گوشت کھانا	بدولت پسر مالدار ہو۔	باورچی کو دیکھنا۔	بہ سعی وکوشش رزق حاصل کرے
بوچڑ کو دیکھنا	نا آشنا ہو تو موت کی دلیل ہے ورنہ تلاش	بلبل دیکھنا۔	غلام باوفا نکلے۔
	دنیا مین خوار و ذلیل ہے۔	بیضہ جانوران نامعلوم کا دیکھنا	عورت جمیلہ ملے بشرطیکہ بیضون کا مالک ہو
بایان طبلہ دیکھنا	گھر مین شادی ہو اور غم سے آزادی ہو۔	بیضہ پختہ یا برشتہ یا خاگینہ کھانا	مال وروزی حلال سے متمتع ہو۔
بکری یا اوسکے کسی عضو کو کھانا	کوئی شخص عزیز واقارب سے مرجاوی۔	بیضہ خام کھانا۔	مال حرام ملے۔
بکری کے سینے کا گوشت کھانا	اوسکے گھر مین کوئی عورت مرجاوی۔	بازار کو دیکھنا	بعد خیر کے شر بعد شر کے خیر کرے۔
بکری کا استخوان پہلو چبانا	رنج وتعب حاصل ہو۔	باز دیکھنا	دشمن صید کری گو وہ بہت کید کرے۔

ردیف باے موحدہ

خواب	تعبیر خواب
بکری کا چرانا	لوگون پر حکومت ہو
بز نر و مادہ دیکھنا	عزت وبہرہ مندی کی دلیل ہے
برات دیکھنا	عورت کو خوشی وسرور مرد نہایت رنجور ہو۔
بحر مواج وہولناک دیکھنا	کسی بلا مین مبتلا ہو
بحر روان وغیرہ ہولناک دیکھنا	کسی ملک کا مالک ہو

ردیف باے فارسی

خواب	تعبیر خواب
پاؤن زمین پر مارنا	مصیبت مین مبتلا ہو رنج کا سامنا ہو۔
پاؤن دیکھنا	سفر پیش ہو رنج پیش ہو۔
پٹخانہ میں جانا	حصول علم سے خالی ہو مگر لازم ذرہ عالی ہو
پہلو دیکھنا	عورت خوبصورت ہاتھ آئے نہایت سرور وراحت پاوے۔
پل صراط دیکھنا	نیک کامون کی طرف طبیعت مائل ہو دولت دنیوی سے استغنائے کامل ہو
پپیہا پڑا پانا	غم کی نشانی ہے نہایت حیرانی ہے۔
پیشاب کرنا	سختی جائے فراخی آئے مالدار نادار ہو جائے۔
پیشاب خون کا کرنا	پیٹ مین لڑکا مرجائے یا عارضہ سخت پاوے۔ مگر تدبیر سے اچھا ہو جائے۔
پارہ ہاتھ مین دیکھنا	روپیہ کثیر ہاتھ آئے مگر جلد صرف ہو جائے۔
پنجہ کتا دیکھنا	تنگدستی وحیرانی ہو نہایت پریشانی ہو
پان کھانا	ہمچشمون مین سرخرو رہے نہایت باآبرو رہے

خواب	تعبیر خواب
پری یا پرستان دیکھنا	حصول علم عرفان ہو یا وصول بزم سلطان ہو
پیپ بدن سے جاری دیکھنا	منفلس کو فرحت دولتمند کو کلفت مریض کو صحت ہو
پھول دیکھنا	کسی گلرو پر عاشق ہو مبتلای فعل فاسق ہو۔
پلہ در کا افتادہ دیکھنا۔	اسکی لڑکیان مرجائین یا شوہر کرکے چلی جاوین
پلہ در کا بند کرنا	زوجہ کو طلاق دے
پلہ در قفل کا کھولنا	دور اضطراب ہو دعا مستجاب ہو
پیر زن کو دیکھنا	اگر نامعلوم ہے تو خوبی وزبونی وکمال ونقصان سال سے مراد ہے۔
پروانہ دیکھنا	روبکاری حاکم مین مبتلا ہو پریشانی کا سامنا ہو
پرانا کپڑا پہننے کا دیکھنا	افلاس شمول ہو تردد حصول ہو

خواب	تعبیر خواب
پسیا آپ کو دیکھنا	حرص بڑھے نیک کامون مین خلل پڑے۔
پھپھولا ہاتھ مین دیکھنا	روپیہ بہت پاوے یا دُرِ شہوار ہاتھ آئے۔
پوری کھانا۔	غیب سے روزی پائے نعمت اچھی چکھنے مین آئے۔
پیوندی بیر کھانا	فرزند دل بند ہو یا رتبہ بلند ہو۔
پنیر پکتے دیکھنا	بدکامون مین مشہور ہو نہایت مغرور ہو
پنجرا دیکھنا	قید مین مبتلا ہو رنج کا سامنا ہو۔
پستان دیکھنا	عورت ملے یا اولاد ہو دولت سے شاد ہو
پوست دیکھنا	مال متروکہ مفت ملے
پوستین دوز دیکھنا	تجارت یا دیگر پیشے مین نفع عظیم حاصل ہو۔
پہاڑ کا مالک ومتصرف ہونا	اپنے دشمن پر قادر ہو۔

ردیف باے فارسی

خواب	تعبیر خواب
پہاڑون کو زلزلے مین دیکھنا	علماے دین کے حق مین بد۔ زبون از حد ہے
پنیر کھانا۔	رنج و مصیبت مین مبتلا ہو پریشانی سوا ہو
پہاڑ مین نقب و سوراخ یا غار کرنا	بحیلہ و فریب کسی پر غالب آوے
پستہ دیکھنا	مال نیک حاصل ہو
پسلیون پر کوئی صدمہ دیکھنا	جو صدمہ دیکھے وہ اُسکی عورتون مین واقع ہو
پیٹھ کی ہڈیان اور پیٹھ دیکھنا	عز و شرف پاوے یا اولاد ہو۔
پہاڑ و ٹیلے پر چڑھنا	مرتبۂ بزرگ حاصل ہو۔
پہاڑ کو آپ کو دیکھنا	آپنے ہمشکل پر فضیلت پاوے۔
پہاڑ ڈھایا دیکھنا	کسی کو ہلاک کرے۔
پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا	تعلقات امور دینیہ مین مشقت و شدت اوٹھاوے

ردیف تاے فوقانی

خواب	تعبیر خواب
تلوار پانا اور میان مین ٹوٹ جانا یا میان ٹوٹ جانا۔	پسر بطن مادر مین مرجاوے تلوار سالم ہے تو پسر سلامت رہے مادر مرجاوے۔
تل یعنی کنجد دیکھنا	باعث افزونی و عدم زوال مال ہے
تلوار یا نیزہ یا لاٹھی سے آپکو مقاتلہ کرتے دیکھنا۔	رتبہ و غلبہ حاصل ہو۔
تلوار وغیرہ سے دوسرے کو لڑتے دیکھنا	منازعت و مخاصمت فی مابین اقوام کے ہو۔
تلوار برہنہ کسی سے پانا اوسے بلند کرنا۔	صاحب غلبہ و شہرت ہو یا دختر صالح پیدا ہو۔

ردیف تائے فوقانی ۔

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
تلوار پرتلے مین لگائے دیکھنا	کسی شہر کا حاکم ہو۔	تلوار کا قبضہ ٹوٹ جانا	باپ یا چچا یا مثل انکے کوئی مرجاوے۔
تبسم کرنا	رنج وغم کا سامنا ہو۔	تلوار کی نوک ٹوٹ جانا	نانی یا دادی یا خالہ یا کوئی مثل انکے مرجاوے
تعویذ پانا	آسیب سے آسیب پائے مگر بعد عرصے کے اچھا ہو جائے	تلوار برہنہ اپنے ہاتھ مین دیکھنا	لوگون سے زبان درازی کرے۔
تکلے سے بال گوسفند وغیرہ کے کاٹنا۔	سفر مین مال حاصل ہو عورت اگر دیکھے تو شوہر غائب شدہ آجائے۔	تلوار کا اپنے اوپر گرتا ہوا دیکھنا	جس ولایت مین ہو اُس سے برخاست ہو۔
تلوار کی آواز سننا	کلام مین فروغ ہو۔	تکلے پر پیچک کا لپیٹا پانا	اُسکی دختر کی شادی ہو۔
توپ دیکھنا	دشمن پر غالب آئے دنیا مین نیکنامی پائے۔	تنبور بجانا	عمدہ پلٹن پائے یا سامان شادی پیش آئے
تکیہ پانا	بزرگی حاصل ہو بزرگون مین شامل ہو۔	توڑا گلے مین پہننا	نیک کام سے اجتناب کرے آرایش دنیا بحساب کرے
تل چبانا	چوری مین مبتلا ہو گرفتاری کا سامنا ہو	تیر نشانے پر مارنا	اُمید برآئے احمقون مین عزت پائے۔
تبرید پینا	مریض شفا پائے تندرست ہو بیمار ہو جائے۔	تیتر دیکھنا	دلیل اقبال ہے موجب زیادتی مال ہے۔
		تیتر کا مکان سے اڑ جانا	زوال دولت ہو موجب رنج وتکلیف ہو۔

ردیف تای فوقانی وپارسی

خواب	تعبیر خواب
تنور دیکھنا	دلیل نعمت وترقی دولت ہے۔
تابوت اپنا دیکھنا	موجب زیادتی زندگانی وکامرانی ہے۔
تار کھینچنا	سبب پریشانی وحیرانی ہے۔
تاج دیکھنا یا پانا۔	بزرگ سے پائے تارک الدنیا ہو جائے بادشاہ سے پائے حکومت ہاتھ آئے۔
تحکمہ پانا	عورت دیکھے لڑکی جنے یا اُسکی بہن پیدا ہو
تخت دیکھنا یا تخت پر بیٹھنا	حاکم ہو یا بادشاہ ہو راحت خاطر خواہ ہو
تھوک منہ سے بہنا	دلیل خست ہے سبب کربت ہے۔
تیر وتبر وغیرہ دیکھنا	بمنزلہ برادر یا پسر کے ہے۔

ردیف تاے فارسی

خواب	تعبیر خواب
ٹڈی قلیل دیکھنا	لشکر کی سرداری پائے تنخواہ بیش ہاتھ آئے
ٹنڈیاں اپنی کسی پھر کھلجانا	گناہوں سے استغفار کرے خدا اُسکا بیڑا پار کرے
ٹھلیا پر دیکھنا	عورت جمیلہ پائے مال ساتھ لائے۔
ٹٹو پر سوار ہونا	سفر تجارت پیش آئے مگر نفع بیش پائے۔
ٹڈی بکثرت دیکھنا	کسی ملک کا حاکم ہونا
ٹڈی کا آنا و زراعت و سبزہ زار وغیرہ کا کھا جانا	گرانی غلہ کی علامت ہے قحط کی اشارت ہے۔

ردیف ثاے مثلثہ

خواب	تعبیر خواب
خام دیکھنا	خام تحصیل کہلائے جس کام کو شروع کرے ناتمام رہجائے
یا دیکھنا	مملکت و ملک ہاتھ آئے انجم سپاہ ہو خلق کی پناہ ہو

ردیف جیم تازی

خواب	تعبیر خواب
بل بہرا دیکھنا	رنج و دفع مسرت کا سامنا ہو خشک دیکھے بالعکس دیکھے
ازہ دیکھنا	صحت و مسرت و افزونی دولت و حشمت ہو
حت بدن مین دیکھنا	فرزند خوش نصیب پیدا ہو یا کسی معشوق پر شیدا ہو
نڈا سرخ دیکھنا	خوشی حاصل ہو مسرت شامل ہو۔
نڈا زرد دیکھنا	عارضہ سخت مین مبتلا ہو بیماری حد سے زیادہ ہو
نڈا نیلا دیکھنا	عمر دراز ہو اور راحت یاب ہو۔
نڈا اسفید دیکھنا	بڑی ایماندارون مین شامل ہو جو ابرار و نکا حاصل ہو
جھنڈا سیاہ دیکھنا	سر دار لشکر کفار ہو نہایت جفا کار ہو۔
جہاد کرنا۔	دونیا و عقبی مین وفادار ہو عاقبت مین بیڑا پار ہو
جہاز دیکھنا	سفر حج پیش آئے مفارقت عزیز و خویش پائے۔
جوتا تنگ پہننا	جور و جنگ کرے نہایت بہ تنگ کرے
جونک دیکھنا	عارضے مین مبتلا ہو رنج و تعب کا سامنا ہو۔
جوکن دیکھنا	ضعیف و حقیر ہو ہر ایک کی آنکھ مین بے توقیر ہو
جواہر دیکھنا	علم سے بہرہ یاب ہو جہل سے اجتناب ہو۔
جون دیکھنا یا کھانا	روزی ملے کلفت ٹلے

ردیف جیم تازی

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
جذام دیکھنا	مال کثیر حاصل ہو فراغت شامل ہو۔	جوتا جلجانا یا چھن جانا	زوجہ کو طلاق دی یا مرجائے یا جاریہ آزاد کرے
جنون دیکھنا	مال کثیر ہاتھ آئے مگر بیجا صرف ہو جائے	جراب دیکھنا	ادیم کی ہے تو متولی مال زکوۃ ہو اگر دریدہ ہے تو مال سے صدقہ وزکوۃ نکالے۔
جامۂ ریمناک دیکھنا	دنیا و آخرت مین خراب حال رہے۔		
جامہ پارہ پارہ وبہم دوختہ دیکھنا	فقر و محتاجگی کی علامت ہی زمانے کی شکایت ہے	جولاہے کو دیکھنا	سفر درپیش ہو
جنت مین داخل ہونا	داخل جنت ہو دونون جہان مین راحت ہو	جہنم مین داخل ہونا۔	مآل بد ہو جہنم نصیب ہو توبہ کرے خدا بھلا کرے
جنت کا میوہ کھانا یا کسی کو دینا	بخبر احکام شریعت ہو	جامۂ سوزنکار پہنے دیکھنا	دنیا و آخرت بخیر وخوبی حاصل ہو
جنت کا میوہ پانا اور نہ کھانا یا کھانے پر قادر نہونا	دین حاصل ہو مگر اُس سے متمتع نہو یا علم حاصل ہو فائدہ نہ اُٹھائے۔	جبہ استردار دیکھنا	عورت عفیفہ وجمیلہ ملے۔
		جوتا شکستہ دیکھنا	زوجہ مرجائے یا برادر وخواہر سے فراق ہو جائے
جنت کے چشمون کا پانی پینا یا لباس جنت کا پہننا۔	دنیا مین راحت و آخرت مین عشرت ہو	جامہ دریدہ کی حالت مین خواستگاری زن کرنا۔	درستی امور کرے۔

ردیف جیم فارسی

خواب	تعبیر خواب
جانوران درندہ دیکھنا	دشمن سے ایمن نہ رہے۔

ردیف جیم فارسی

خواب	تعبیر خواب
چاند دیکھنا	بادشاہ یا عالم یا حکیم ہو یا بزرگ وعاقل وفہیم ہو
چاندنی چھٹکی دیکھنا	فراخی نعمت ہو۔
چاندی گلاتے دیکھنا	مال مشقت سے ہاتھ آئے لیکن صرف نکر سکے برباد ہو جائے
چھینکنا	جس مطلب میں شک ہو وہ بیشک ہو
چھال کسی درخت کی دیکھنا	فلاکت کا مبتلا ہو ہلاکت کا سامنا ہو۔
چوٹی چھوٹتے آپکو دیکھنا	زن مرید بیحد ہو فاسق شدید از حد ہو

خواب	تعبیر خواب
چاند گہن دیکھنا	حاکم وقت پر آفت سخت آئے یا غلہ گران ہو جائے
چراغ روشن دیکھنا	عمر بڑی ہو اولاد ہو یا شادی کرے بیوی سے گھر آباد ہو
چند کو اڑتے دیکھنا	بلا سے اور غم سے رہائی پائے غم مبدل بشادی ہو
چتر دیکھنا	حکومت و ریاست پائے دولت بیحد ہاتھ آئے۔
چوہا دیکھنا	عورت بدسیرت بدصورت پائے رنج وغم اٹھائے
چوب خشک دیکھنا	نفاق دین میں ہو اگر خرمے کی ہے تو غمازی کرے۔
چوب دستی کا دیکھنا	عمر دراز ہو مرتبہ عالی پر سرفراز ہو۔
چینا و چھوٹی جوار و باجرہ دیکھنا	روزی بدقت وخواری ملے۔
چقندر چا مغز مولی گاجر وغیرہ دیکھنا	روزی بدقت وخواری میسر آئے اور جو صدمہ ہو وہ مدت دراز تک رہے۔

ردیف جیم فارسی وحاء مہملہ

خواب	تعبیر خواب
چاندی یا سونیکی شی پہنے دیکھنا	کشایش رزق ہو۔
چاندی کے ظروف ہر قسم کے دیکھنا	زوال مال ہو یا قہر سلطانی عائد حال ہو۔
چیتے ملوہ کا دودہ پیتے دیکھنا	نیکنام ہو۔
چیونٹیون کو اپنے گہر یا اور کسی جگہ دیکھنا۔	جہان دیکھے وہان کی نخل وشاخین بڑھین
چناسور یا ترش سبز دیکھنا	مال ہاے حرام پائے نہایت رنج اٹھائے۔
چادر یا کسی لباس مین پیوند لگانا	زیادتی معیشت وروزی نیک کی دلیل ہے
چکی و آٹا پیسنے والا غیر شخص اپنے گہر مین دیکھنا	دوسرے کی شقت سے رزق ملے اگر خود ہے تو مشقت سے روزی ملے یا حرب پیش آئے

ردیف حاے مہملہ

خواب	تعبیر خواب
حرم شریف دیکھنا	خداوند کی طرف سے عفو تقصیر ہو دشمنون مین توقیر
حمام مین جانا اور غسل کرنا	حاصل مسرت ہو دور مصیبت ہو۔
حق تعالی کو حساب کرتے دیکھنا	گناہ معاف ہو صاحب داد وانصاف ہو
حوض دیکھنا	خیر وبرکت کی علامت ہے نزدیکی بشارت ہے
حمام کی بناڈالنا	عورت سے ہم بستر ہو دشمن جل کر خاکستر ہو
حمام کو سرد وبے آب دیکھنا	عورت خراب سے ملے۔
حلوا دوسرے کے ہاتھ مین آنا	اس شخص کو مال غنیمت اور میراث اور غلہ ملے
حقہ پینا	مرض سے نجات ہو معشوق سے ملاقات ہو۔

خواب	تعبیر خواب
حیض سے پاک ہو کر غسل کرنا خود دیکھنا	مغفرت کی دلیل ہے صحت ہو اگر علیل ہے جنت نصیب ہو دعا مجیب (قبول ہونے والی) ہو۔
حکم عورت کا ماننا	فعل زنا مین مبتلا ہو رسوائی کا سامنا ہو۔
حلال کرنا جانورون کا	کار خیر زیادہ ہو حاکم وقت سے فائدہ ہو۔
حلوا کھانا	علم اکتساب کرے جہل سے اجتناب کرے
حلوے یا کسی شیرینی کا اپنے ہاتھ مین آنا	اپنی مشقت کا اجر پاوے۔
حیض جاری اپنی زوجہ کا دیکھنا	کوئی فریفتہ ہو یا اُس سے حاملہ ہو۔
حمل دیکھنا۔	دنیا مین مرتبہ حاصل ہو مال مین افزائش کامل ہو۔

خواب	تعبیر خواب
حمل میت بغیر جنازہ دیکھنا	حامل مال حرام ہو اگر بطریق جنازہ دیکھے کسی خدمت سلطانی پر مامور ہو۔
حلاج یا پنبہ کش کو دیکھنا	خیر و برکت حاصل کرے فسق و فجور زائل کرے
حمام مین پیشاب کرنا یا نورہ سے بال منڈانا	رنج سے راحت عارضے سے صحت پائے۔
حدث کرنا	بقدر زیادتی و کمی کے مال تلف ہو۔
خون، ریم کپڑے وغیرہ کا گرنا	محتاج توانگر اور توانگر محتاج ہو جائے۔
حدث ریح مع الصوت کرنا	کلمات بیہودہ زبان پر لاوے حلق مین مسخرہ کہلاوے
حائض آپکو دیکھنا	مرتکب امر حرام ہو خلق مین بدنام ہو
حفر قبر خود کرنا	مکان نو تعمیر کرے حسد صغیر و کبیر کرے

خواب	تعبیر خواب
حجام کو دیکھنا	کسی مرد متمول وظالم سے کام پڑے۔

ردیف خائے معجمہ

خواب	تعبیر خواب
خرگوش دیکھنا	نہ نفع ہے نہ ضرر ہے۔
خربزہ کھانا	دولت ہاتھ آئے مگر جلد زوال پائے۔
خرما تازہ دیکھنا	زیارت حرمین نصیب ہو جو دعا کرے مجیب ہو۔
خانۂ باغ مین آپکو دیکھنا	مرض سقیم سے افاقہ پائے مریض ہو صحیح ہو جائے
خانۂ تاریک مین تنہا ہونا	بیماری سے گور جھانکے یا افلاس سے خاک پھانکے۔
ختنہ کرتے دیکھنا	فسق وفجور سے محفوظ رہے روپیہ او نعمت سے محظوظ رہے

ردیف خائے معجمہ

خواب	تعبیر خواب
خچر کا گوشت کھانا	عورت بدکار کا مال پائے مگر حرام مین خرچ ہو جائے
خچر پر سوار ہوتے دیکھنا	مالک خچر کی عورت سے نکاح کرے ہر ایک کی شماتت کرے یا مغلوب دشمن ہو عورت دیکھے کسی مرد سے نکاح کرے
خصیہ دیکھنا	قوت زیادہ ہو سواری ملے اگر پیادہ ہو
خوشہ پانا	سفر کرے یا کیسۂ زر پائے یا کنیز دوشیزہ ہاتھ آئے
خر پر آپ کو سوار دیکھنا	رسوائی کی نشانی ہے پشیمانی پیش آتی ہے۔
خربزہ سبز یا زرد دیکھنا	اگر سبز ہے در رزق وا ہو زرد ہے تو مرض مین مبتلا ہو۔
خاک وریگ کا کھانا	مال عظیم دولت مستقیم حاصل ہو۔
خطبہ ممبر پر پڑھتے دیکھنا	اگر لائق ہو مرتبہ وبزرگی حاصل ہو ورنہ قطع دست کا رنج شامل ہو یا برادری سے خارج ہو۔

ردیف خاے معجمہ

خواب	تعبیر خواب
خون بغیر زخم کے بدن سے بہتے دیکھنا	مال حرام دستیاب ہو۔
خون سے یم آلود نکلنا اور جامہ و بدن آلودہ ہونا۔	ضرر ارضی یا فلکی یا جسمانی دفع ہو
خون پچھنے سے لینا۔	کسی امانت کا امانت دار ہو مگر شناخت برقرار ہو
خون آلودہ ہونا اور غلیظ مین لتھڑنا	مال حرام غیر طیب ملے۔
خروج منی بغیر مباشرت عورت کے دیکھنا	باعث قتل انسان ہو
خلخال یعنی پازیب پہنے دیکھنا	سختی وخوف وقید شل اسکے کسی بلا مین مبتلا ہو
خر کی نسبت زیادتی یادیان دیکھنا	صاحب خیر و برکت ہو۔

خواب	تعبیر خواب
خر و قفنا یا دونون پہلو سفید دیکھنا	مبارک اور باعث کثیر الخیر کا ہے۔
خر پر سے اُترنا	منصب سے اُترنا ہے۔
خر خرید کرنا	خبر خیر و کلام خوش انجام بیان کرے
خر کا خچر ہو جانا	سفر پیش ہو مفارقت عزیز و خویش ہو
خر کا گھوڑا ہو جانا	بادشاہ یا کسی مرد شریف سے معاش حاصل ہو
خر کا گوشت کھانا یا برغبت اُسکو ذبح کرنا	مال حرام ملے۔
خر مادہ کا دودھ پینا	تندرست بیمار ہو جائے بیمار تندرست ہو جائے
خنزیر یعنی سور کا دیکھنا	مال حرام سے ملے
خطبہ خوان کو دیکھنا	فقہ و علم دین حاصل ہو۔

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
خبر رسان یا بردہ فروش یا چوب تراش کو دیکھنا	عہدۂ اخبار نویسی پر مامور ہو۔	درخت پھولوں کا دیکھنا	روپیہ بیشمار پائے یا معشوق نوبہار ہاتھ آئے۔
	ردیف دال مہملہ	دروازہ عالی شان دیکھنا	عورت نیک پائے یا کوئی سرکار بڑی ہاتھ آئے۔
		دمدمہ یا دھس بنانا	بلند ہمت ہو صاحب عزت و حرمت ہو۔
دانت اپنے گرتے دیکھنا	عمر دراز ہو در راحت باز ہو۔	دوات دیکھنا	روسیاہی حاصل ہو صدقہ دے بلا زائل ہو۔
دانت سونے اور چاندی کے دیکھنا	بیماری کی علامت ہے باعث فلاکت ہے صدقہ دیوے رد بلا ہو	درخت میوہ دار دیکھنا	دلیل برخورداری ہے و بے ثمر سے ذلیل خواری ہے
دانت آپ سے اکھاڑنا	بیٹے کو ناحق عاق دے یا جورو کو طلاق دے۔	درخت پر آپکو چڑھتے دیکھنا	مرتبہ بلند پائے یا حاکم سے فائدہ اٹھائے۔
دانت سیاہ یا لکڑی یا موم کے دیکھنا	آثار ہلاکت یا باعث مصیبت ہے صدقہ دینا ضرور ہے	دریا سے پار ہونا	تحصیل علم سے فراغت رنج مبدل براحت ہو۔
درس دینا۔	اگر فقہ و علم ادب و حدیث و حکمت و منطق و انگریزی دیکھے دولت دنیا سے مالا مال ہو	دریا مین آپکو ڈوبتے دیکھنا	نیک کامون سے کنارہ کرے بری کامون مین جا پڑے۔
		دھوان دیکھنا	فتنہ و فساد اٹھے دوستون مین غبار رہے ہر ایک کی نظر مین بے اعتبار ہو

خواب	تعبیر خواب
دودھ عورت کا پینا	اگر منکوحہ ہے تو الفت بڑھائے اگر غیر منکوحہ ہے خانہ دہ پہونچائے
دختر پیدا ہوتے دیکھنا	عورت دیکھے پسر ہو مرد دیکھے دختر ہو
دوزخ کی عذاب مین آپکو گرفتار دیکھنا	جورو بدصورت بدسیرت ملے تنگ کرے نہایت زندگی تنگ کرے
دوزخ مین آپ کو دیکھنا	سفر بصورت سفر پیش آئے مگر مع الخیر واپس آئے۔
دلدل دیکھنا	مال سے مالامال ہو ترقی دولت و اقبال ہو۔
دل دیکھنا	اہل دلون مین شمار ہو یا متلاشی درم و دینار ہو
دودہ جانوران حلال کا پینا	روزی حلال پائے اگر بالعکس ہے عورت بدکار سے ملال پائے
دیکو دیکھنا	خوشرو دیکھے مرتبہ پائے بدشکل دیکھے رنج اُٹھائے۔
دہی دیکھنا	سفر پیش آئے مگر خیر و عافیت سے گھر آئے۔

خواب	تعبیر خواب
دیوانے کو دیکھنا	فکر مین مبتلا ہو آفت کا سامنا ہو
دلدل دیکھنا	رہنما پائے گناہون سے توبہ کرے۔
دوشالہ پانا	امیر سے عزت پائے یا زن مالدار ہاتھ آئے۔
دیوار پر کھڑا ہونا اور اسپر سے گرنا	مرتبہ پست ہو یا ہلاک بے حجت ہو
درخت بے ثمر دیکھنا۔	شخص بخیل سے علاقہ ہو فائدہ کم ہو۔
درخت پاکیزہ و خوشبودار دیکھنا	مرد شریف سے ملاقات ہو از حد مدارات ہو۔
درخت بدبو کا دیکھنا	مرد خبیث سے سابقہ ہو رنج لاحقہ ہو۔
دانہ گندم تر و تازہ دیکھنا	دین مین صلاحیت ہو رزق حلال و طیب ملے
دانہ گندم خشک یا کچا پایا دیکھنا	زبون ہے شر رہنمون ہے۔

ردیف دال مہملہ

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
دروازہ اپنے گھر کا کھد جانا یا بنا بنانا	مکان بیع کرے یا زوجہ اوسکی دوسرا نکاح کرے۔	درخت لگانا اور اوسکا بلند ہونا	شرف اور عزت کو پہونچے۔
دروازہ اپنے گھر کا گر پڑا دیکھنا	مریض ہو مگر فضل الٰہی سے جلد صحت ہو۔	دختر صغیر کا پیدا ہونا	فرحت و سرور ہو لڑکا دیکھے غم ہو فور:
دروازہ غیر کے گھر کا کھد گیا یا گر پڑا دیکھنا	صاحب خانہ کو موت آئے یا اوسکی زوجہ مرجائے۔	دانت واحد کا گرنا یا اوسکی جڑ کا حرکت کرنا	قرابت دار مرجائے شادی مین غم سامنے آئے۔
درخت ہر قسم کا دیکھنا	بد دیکھے بدی حاصل ہو اچھا دیکھے بہتری شامل ہو	دانتونکو حرکت و جنبش مین دیکھنا	کوئی شخص گھر کا مریض ہو۔
درختون سے پھل پتے پانا	رزق بقدر عظمت درخت حاصل ہو۔	دانتونکو کپڑے یا جیب یا گھر مین رکھ لینا	اولاد یا بھائی یا بیٹون سے مستفید ہو۔
درخت خاردار کا دیکھنا	باعث رنج و غم ہے	دانتونکو کچھ کھاتے یا چباتے دیکھنا	بعض گھر والون کو عارضۂ بدنی نصیب ہو
در[illegible] کا ضائع یا چوری ہو جانا	فوت پسر ہو رنج [illegible] ہو۔	دانتونکی درازی یا دانت پر دانت نکلنا یا سفید یا چمکتے دیکھنا	بزرگان قریب تر سے بہبودی دیکھے۔

خواب	تعبیر خواب
دانتوں پر کچھ صدمہ دیکھنا	کوئی صدمہ اُسکے بزرگوں پر واقع ہو۔
دفن خود بلا مرگ دیکھنا	اپنے کام مین سختی دیکھے یا قید ہو۔
درفشانی وگہر ریزی کرا ہون	علم حکمت حاصل کرے مگر بے محل صرف کرے
درگھورون بازارون مین دیکھنا	
دینار مجہول النوع و مجہول التعداد دیکھنا	عزت وناموس مین خلل واقع ہو۔
درہم قلب پانا	کسی سے کلام خصومت آمیز کرے۔
درہم کا تھیلی یا ہمیانی مین پانا	رازدار کسی سرکار کا ہو۔

ردیف دال فارسی

خواب	تعبیر خواب
ڈاڑھی اندازے سے زیادہ دیکھنا	مبتلائے رنج ہو۔
ڈاڑھی اپنی سیاہ دیکھنا	اقبال جوان دولت سے شادمان رہے
ڈاڑھی گنجان دیکھنا	توانگر کو زیادتی مال ہو مفلس کو ترقی اہل وعیال ہو
ڈاڑھی نچی دیکھنا	بیوی سے جوتی پیزار ہو نہایت بیزار ہو۔
ڈول دیکھنا	خالی دیکھے ڈانواں ڈول رہے بھرا ہو روٹی سے پر رہے
ڈاڑھی چڑھی دیکھنا	خجالت وپشیمانی لاحق ہو رنج ومصیبت علائق ہو۔
ڈاڑھی سر بال ایک ساتھ منڈتے دیکھنا	مفلس متمول ہو مقروض قرض سے ادا ہو بیمار کو صحت ہو
ڈف بجانا	عورت کو بہتری مرد کو رسوائی ہو اگر کچھ نہو تو رایونی ہو
ڈاڑھی خضاب کرتے دیکھنا	آرائش دنیا کی نشانی ہے انجام مین پشیمانی ہے
ڈاڑھی منڈی یا گر گئی دیکھنا	تنزل مراتب ہو

ردیف ذال معجمہ			
خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
ذبح کرنا جانوران حرام کا دیکھنا	مال حرام کھائے فسق و فجور مین مبتلا ہو جائے۔		**ردیف راے مہملہ**
ذلت و خواری اپنی دیکھنا	عزت و وقار حاصل ہو۔	رس دیکھنا	دلیل کامرانی ہے باعث شادمانی ہے۔
ذبح کرنا حلال جانور و نحا یا دیکھنا	حاکم سے نفع ہو تکلیف رفع ہو۔	روزہ رکھنا	صالح ہونے کی نشانی ہے دولت و حکومت آتی ہے
ذکر خدا کرتے دیکھنا	مسجد مین دیکھے عابد ہو لب دریا دیکھے مرشد کامل پائے	روزینہ مقرر ہوتے دیکھنا	بے نوکر ہو جائے اگر نوکر ہو ترقی مدارج پائے۔
ذاکر یعنی مرثیہ خوان کو دیکھنا	سبب دفع ملال ہے۔	روش دیکھنا	دوستون سے فائدہ اٹھائے دولت دنیا ہاتھ آئے
ذکر زن کا ہونا	اگر حاملہ ہی لڑکا جنے اور وہ لڑکا سردار قوم و متمول ہو ورنہ کبھی لڑکا نہ جنے اگر جنے بھی تو مر جائے زندہ نہ رہے	رسی دیکھنا	راہ دین ہاتھ آئے خلقت کو راہ راست بتلائے۔
ذکر خود مثل ذکر بہائم کے دیکھنا	کثیر النسل ہونے کی دلیل ہے۔	رسی کو بل دیتے دیکھنا	سفر پیش ہو مصیبت پیش ہو۔
ذبح کرنا وحوش کا یا دیکھنا	کسی جاریہ خوبرو کا ازالہ بکر کرے اگر غیر موضع سے ذبح کرنا دیکھے تو خود لواطت کرے۔	رکابی دیکھنا	خدمتگار یا نعمت پائے یا ترک مذہب کرے رکابی مذہب کہلائے۔

ردیف رائے مہملہ

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
زن دیکھنا	مشکل پیش آئے مگر جلد حل ہو جائے۔	رباب دیکھنا	پریشانی اٹھائے صدمے پر صدمہ پائے۔
زنجک اُڑتے دیکھنا	توپخانے مین نوکر ہو یا پریشانی حاصل ہو مگر جلد رفع ہو	رشوت لینا	خلق مین بدنام ہو بدنامی طشت از بام ہو۔
روتے غیر کو دیکھنا	تجارت مین نفع پائے یا ہر ایک سے بدکلامی کرے یا پنبہ دہن کہلائے	راکھ دیکھنا	راحت کی نشانی ہے مگر قدرے پشیمانی ہے۔
رفو کرنا۔	خلایق کا پردہ پوش ہو مکروہات زمانہ سے سبکدوش رہے۔	رنج دفع کرنا	دفع مرض کی نشانی ہے مگر اللہ کی مہربانی ہے
ران دیکھنا۔	عورت ملے شادی ہو پریشانی دور ہو خانہ آبادی ہو۔	روباہ دیکھنا	مکاری کی علامت ہے صدقہ دے رد بلا ہو۔
رنگریز دیکھنا	دروغ گوئی و ریاکاری کی علامت ہے۔	روزن دیکھنا	معشوق عیار محبوب مکار ملے۔
رخسارہ دیکھنا	اگر حسین ہے قدر و جاہ بڑھ جائے ورنہ معشوق اچھا پائے۔	رائی دیکھنا	مصیبت مین مبتلا ہو ناچاری کا سامنا ہو۔
روغن دیکھنا	اگر سیاہ ہو سفر سے سلامت پھرے زرد ہو مبتلائے رنج و مصیبت ہے	رخنہ دیکھنا۔	کالی بلا نازل ہو رنج و تعب حاصل ہو
روشنی دیکھنا	رہنما اچھا ملے ترک راہ ضلالت کرے۔	رعد مع باد و باران دیکھنا	جبر سلطان سے خوف ہے۔

ردیف راے مہملہ

خواب	تعبیر خواب
ریگ و خاک کا کھانا یا انکا غبار اپنے اوپر دیکھنا	مال عظیم حاصل ہو اگر اُسپر چلنا پھرنا دیکھے مقصد میں حاصل ہو
رات کا دیکھنا۔	گردش زمانہ سے صدمہ اُٹھائے۔
روغن ساز کو دیکھنا	دلیل حیل سازی و سخن پردازی کی ہے۔
روتا اپنے کو دیکھنا	خوشی ہو یا گناہ سے توبہ کرے۔
	ردیف زاء معجمہ
زمزم کا پانی پینا	زہد و تقوی کی نشانی ہے فکر و تردد سے نجات ہاتھ آتی ہے
زکوۃ دینا	تجارت میں نفع ہو فکر و تردد رفع ہو۔
زبان سے لعاب گرتے ہوئے دیکھنا	مرض و صعوبت کی نشانی ہے صدقہ دے رد بلا ہو۔
زراعت دیکھنا	رزق میں برکت ہو مفلس ہو ثروت ہو۔

خواب	تعبیر خواب
زنجیر دیکھنا	محاسبے میں مبتلا ہو پریشانی کا سامنا ہو۔
زنجیر ہاتھ میں دیکھنا	گناہ میں آلودہ ہو مصیبت اندوہ ہو۔
زوجہ کا مر جانا	عورت کو طلاق دے یا خود چلی جائے۔
زنبور دیکھنا	دشمن سے مقابلہ ہو باہم مقاتلہ ہو۔
زمین کھود کر پانی پینا	بمشقت روزی پائے شب و روز غم و غصہ کھائے۔
زندہ کو مردہ دیکھنا	جسکو دیکھے اُسکی ترقی حیات ہو دور آفات ہو۔
زہر کھانا	غم و غصہ کھائے پریشانی اُٹھائے۔
زاہد کو دیکھنا۔	دین کے کاموں میں قوت ہو نیک کرداری میں شہرت ہو
زینے پر چڑھنا	رتبہ بلند ہونیکی علامت ہے ترقی کی بشارت ہے

ردیف زائے معجمہ

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
زلف بنانا	عشق مین مبتلا ہو فراق کا سامنا رنج فرقت اُٹھائے مجنون کہلائے۔	زمین سرسبز و وسیع و بناہیاے نامعلوم دیکھنا	دین اسلام مین ترقی ہو۔
زہرہ دیکھنا	کسی حور شمائل پر دل مائل ہو مگر ہر وقت فکر لاطائل ہے	زمین کشادہ دیکھنا	ترقی عمر بامن و خیر ہو۔
زمین پر بنا ڈالنا۔	وقعت حاصل ہو یا تولد فرزند ہو۔	زمین سمٹ گئی دیکھنا	موت کا پیغام ہو یا ولایت و حکومت حاصل ہو بشرطیکہ اُسکے قابل ہو۔
زمین کھدی مین آپکو گاڑتے دیکھنا	سفر پیش ہو یا موت آئے یا رنج و صعوبت اُٹھائے۔	زمین کا کلام کرنا۔	دلیل خیر و برکت ہے اور کل شے غیر ناطق سے یہی مراد ہے
زنار دیکھنا	کافر سے نفع ہو پریشانی دفع ہو۔	زمین مین بغیر غار کھودنے کے غائب ہو جانا۔	تلاش و دنیا مین ہلاک ہو اور بسبب گناہون کے نجس و ناپاک ہو۔
زمین کا زلزلہ دیکھنا	کوئی غنیم اُس ملک پر چڑھائی کرے یا حاکم وقت سے لڑائی کرے	زمین کھودنا و خاک کھانا	مال مردم بمکر و حیلہ کھائے دنیا مین جعلساز کہلائے
زمین محدود نظر دیکھنا	زن بدکار ملے۔		
زمین غیر محدود نظر دیکھنا	دنیا حاصل ہو۔		

ردیف زائے معجمہ

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
زن کا زبان دراز دیکھنا	زبان قطع ہو۔	زیور زنان دیکھنا	مرد یا عورت دیکھے دونون کے حق مین بہتر ہے
زخم و قروح و دنبل و دانے	بقدر کمی و زیادتی مال حاصل ہو۔	زنبیل باف کو دیکھنا	عورت ملے۔
بدن مین دیکھنا	دروغ گوئی و جعلسازی مین طاق ہو۔		
زرگر یامس گر کو دیکھنا	کسی عورت سے نکاح کرے۔	سورۂ فاتحہ کا تلاوت کرنا	جو دعا مانگے قبول ہو یا سات عورتون
زین و پالان اپنے مرکب پر رکھتے دیکھنا	طلب رزق مین گردش کرے۔		مختلفہ سے نکاح کرے۔
زمین کا آپکو جگہ دیتے دیکھنا	قطع مخاصمت کرے یا دین کی اصلاح کرے۔	سورۂ بقرہ کا خود پڑھنا	رزق سے آسودہ ہو صلاح دین حاصل
زبان اپنی قطع یا کوتاہ یا		یا دوسرے کو اپنے سامنے	ہو یا دوسری جگہ عزت و منفعت پائے یا قاضی
ناقص دیکھنا۔		پڑھتے دیکھنا۔	ہو اگر عالم ہے عمر دراز ہو۔
زانو کا قطع ہوتے دیکھنا	اپنی قوم و اقارب سے مفارقت کرے۔	سورۂ آل عمران کا پڑھنا	جوانی یا پیری مین خوش حال رہے

ردیف سین مہملہ

خواب	تعبیر خواب
سورۂ نساء کا پڑھنا	آخر عمر مین عورت خوبصورت ملے شام و سحر عیش و عشرت کرے
سورۂ مائدہ کا پڑھنا	بباعث طعام داری بزرگ ہو مگر ایک قوم ظالم مین مبتلا ہو
سورۂ انعام کا پڑھنا	محافظت دین و تلاش معاش نیک کرے۔
سورۂ اعراف کا پڑھنا	ہر علم سے نصیبہ پائے یا مسافرت مین مر جائے مگر دین سلامت رہے
سورۂ انفال کا پڑھنا	کافرون کو شکست ہو مال غنیمت ملے۔
سورۂ توبہ کا پڑھنا	محب و دوستدار مردم ہو جائے جہان مین صالح و ابرار کہلائے
سورۂ یونس کا تمام یا کسیقدر پڑھنا	کسیقدر مال مین نقصان ہو۔
سورۂ ہود تلاوت کرنا	دشمنون سے تنگ ہو کر سفر اختیار کرے۔
سورۂ یوسف کا پڑھنا	دشمن دوستان ہو عالم غربت مین فائدہ کثیر حاصل ہو
سورۂ رعد کا پڑھنا	دور فقر ہو یا موت قریب ہو۔
سورۂ ابراہیم علیہ السلام کا پڑھنا۔	زمرۂ سجین مین داخل ہو۔
سورۂ حجر کا پڑھنا۔	اپنے اہل مین محفوظ رہے مگر مسکین رہے اگر بادشاہ ہے جلد مرے قاضی ہے نیک ہو تاجر ہے اپنے اہل پر فضل کرے عالم ہے با عزت
سورۂ نحل کا پڑھنا	شیعیان و موالیان محمد صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم سے ہو
سورۂ اسرے کا پڑھنا	سلطان وقت سے حکم بضرر جاری ہو مگر وہ محفوظ رہے
سورۂ کہف کا پڑھنا	عمر دراز ہو مال حلال حاصل ہو۔
سورۂ مریم کا پڑھنا	مفلس ہو مالدار ہو جائے۔

ردیف سین مہملہ

خواب	تعبیر خواب
سورۂ طٰہٰ کا پڑھنا	نماز شکر دوست رکھے افعال خیر کرے اہل دین مین مجمع خاطر ہو
سورۂ انبیا علیہم السلام کا پڑھنا	خلائق مین نیک مشہور رہو۔
سورۂ حج کا پڑھنا۔	حج و عمرہ نصیب ہو بیمار ہو وفات پائے جنت مین جائے
سورۂ مؤمنون کا تلاوت کرنا	طول و عاقبت سے رغبت ہو اور کسی مرض مین مبتلا ہو
سورۂ نور کا تلاوت کرنا	لوگون کو واجبات و مستحبات پر برانگیختہ کرے منہیات سے مانع ہو اور کوئی مرض لاحق ہو۔
سورۂ فرقان کا تلاوت کرنا	حق کو دوست رکھے باطل سے کراہت کرے۔
سورۂ شعرا کا پڑھنا	تنگی رزق ہو سفر کرے نفع کم ہو۔

خواب	تعبیر خواب
سورۂ نمل کا پڑھنا	دوست حق و دشمن باطل و مکروہ ہو اور اپنی قوم کا سردار ہو
سورۂ قصص کا پڑھنا	خدا کسی زمین جنگل و یا زمین مسجد مین آزمایش کرے
سورۂ عنکبوت کا پڑھنا	حق تعالی اوسکو کسی بلا مین مبتلا کرے۔
سورۂ روم کا پڑھنا	نفاق پیدا ہو بادشاہ ہے تو عالم ہو یا قاضی و تاجر ہے تو فائدہ کثیر حاصل ہو۔
سورۂ لقمان علیہ السلام کا پڑھنا	کتابت و حکمت سے فائدہ پاوے۔
سورۂ سجدہ کا پڑھنا	عقیدہ بتوحید قوی ہو اور سالم الیقین ہو
سورۂ احزاب کا پڑھنا	مداح اپنے اہل کا ہو اور عمر دراز ہو۔
سورۂ سبا کا پڑھنا	شجاع و سردار فوج ہو۔

خواب	تعبیر خواب
سورۂ فاطر کا پڑھنا	زیارت و رویت خدای عزوجل حاصل ہو اور اولیاء اللہ مین شامل ہو۔
سورۂ یٰسین کا پڑھنا	دین محکم و استوار ہو۔
سورۂ صافات کا پڑھنا	رزق حلال حاصل ہو اور دو فرزند نرینہ اللہ عطا کرے
سورۂ ص کا پڑھنا	صاحب غیرت و دوست دارندۂ زنان ہو۔
سورۂ زمر کا پڑھنا	عمر دراز ہو اپنے والد کی اولاد دیکھے یا سفر کرے بخیر معاودت کرے
سورۂ غافر کا پڑھنا	سالم الیقین ہو
سورۂ فصلت کا پڑھنا	باعث ہدایت شریعت ہو۔
سورۂ شوری کا پڑھنا۔	علم و عمل سے استفادہ حاصل ہو۔

خواب	تعبیر خواب
سورۂ زخرف کا پڑھنا	اول و آخر مین روزی تنگ ہو۔
سورۂ دخان کا پڑھنا	جبر حکام و عذاب قبر و آتش جہنم و ضعف یقین سے امان پائے۔
سورۂ جاثیہ کا پڑھنا	صاحب زہد و ورع ہو
سورۂ احقاف کا پڑھنا	والدین عاق کرین مگر آخر عمر مین توبہ حسنہ کو پہنچے
سورۂ قتال یعنی سورہ محمد صلے اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھنا	ملک الموت بصورت نیک آوے
سورۂ فتح کا پڑھنا	محبوب خدا ہو۔
سورۂ حجرات کا پڑھنا	تالیف قلوب بندگان خدا کا باعث ہو

ردیف سین مہملہ

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
سورهٔ ق کا پڑھنا	صاحب علم و کمال و قوی و توانا ہو اور آخر عمر اول سے بہتر ہو	سورهٔ حشر کا تلاوت کرنا	جسوقت اُسکا حشر ہو خدا راضی ہو اور اوسکے دشمن کو خدا ہلاک کرے۔
سورهٔ ذاریات کا پڑھنا	نباتات زمین سے جو چاہے ملے یا ہر مذہب کے ساتھ میل کرے۔		
سورهٔ طور کا پڑھنا۔	مقبول دین ہو۔	سورهٔ ممتحنہ کا پڑھنا	محنت و مصیبت کو پونہچے مگر اجر بھی ملے۔
سورهٔ نجم کا پڑھنا	حق تعالیٰ اوسکو اولاد ذی علم و اہل ورع عطا کرے۔	سورهٔ صف کا تلاوت کرنا	درجہ شہادت پائے۔
سورهٔ قمر کا پڑھنا	سحر مین مبتلا ہو مگر بخیر و عافیت نجات پاوے۔	سورهٔ جمعہ کا پڑھنا۔	دنیا و آخرت بخیر ہو
سورهٔ رحمٰن کا پڑھنا	دنیا مین متنعم بہ نعمت اور آخرت مین فائز برحمت ہو۔	سورهٔ منافقون کا پڑھنا	نفاق سے بری رہے۔
سورهٔ واقعہ کا پڑھنا	امور خیر و طاعت خدا مین سبقت کرے۔	سورهٔ تغابن کا پڑھنا۔	ہدایت و ایمان پر مستقیم و قائم رہے۔
سورهٔ حدید کا پڑھنا	تبعیت و پیروی نیک و صحیح الدین ہو۔	سورهٔ طلاق کا تلاوت کرنا	زوجہ سے نزاع ہو مہر دے کے طلاق دے
سورهٔ مجادلہ کا پڑھنا	اہل باطل سے مجادلہ کرے اور اُسپر غالب رہے۔	سورهٔ تحریم کا پڑھنا	ارتکاب محرمات سے محفوظ رہے۔

خواب	تعبیر خواب
سورهٔ ملک کا پڑھنا	دنیا و آخرت بخیر ہو۔
سورهٔ ن کا پڑھنا۔	عنایت الٰہی و رستگاری و کامگاری حاصل ہو
سورهٔ حاقہ کا پڑھنا	خوف ضرب و قطع ہے مگر حق پر۔
سورهٔ معارج کا پڑھنا۔	مؤید و منصور ہو۔
سورهٔ نوح کا پڑھنا۔	واجبات و مستحبات پر حکم کرے منہیات سے مانع ہو دشمن پر فیروزمند رہے۔
سورهٔ جن کا پڑھنا۔	آسیب جن و پری سے محفوظ رہے۔
سورهٔ مزمل کا پڑھنا	نیک سیرت و ستودہ کار ہو۔
سورهٔ مدثر کا پڑھنا	اگر تنگ معاش ہو کشایش رزق ہو۔
سورهٔ قیامت کا پڑھنا	کسی امر پر حلف نکرے۔
سورهٔ دهر کا پڑھنا	صاحب سخاوت و شکرگذار خدا ہو۔
سورهٔ مرسلات کا پڑھنا	وسعت رزق ہو زبان دشمن کی بند ہو
سورهٔ نبا کا پڑھنا۔	ہم و غم دور ہو شان عظیم و ذکر جمیل ہو۔
سورهٔ نازعات کا پڑھنا	رنج و غم دور ہو۔
سورهٔ عبس کا پڑھنا	صدقات کثیر دے و زکوة مال نکالے۔
سورهٔ تکویر کا پڑھنا۔	اگر بسمت مشرق سفر کرے اور وہ سفر سودمند ہو۔
سورهٔ انفطار کا پڑھنا۔	مقرب ملوک و سلاطین ہو۔

ردیف سین مہملہ

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
سورۂ تطفیف کا پڑھنا	صاحب وقار و اہل عدل و داد ہو۔	سورۂ لیل کا پڑھنا	نگہبانی و حفاظت خدا مین رہے خطر سے بیخطر رہے
سورۂ انشقاق کا پڑھنا	کثرت اولاد و نسل ہو اللہ کا فضل ہو۔	سورۂ ضحیٰ کا پڑھنا	یتیمون اور مسکینون پر کرم و رحم کرے۔
سورۂ بروج کا پڑھنا	غم سے نجات ہو اور انواع علوم سے مکرم ہو۔	سورۂ انشراح کا پڑھنا	رنج و غم دور ہو تابع اسلام ہو۔
سورۂ طارق کا پڑھنا	صاحب الہام ربانی ہو فضل یزدانی ہو۔	سورۂ تین کا پڑھنا۔	حاجت بعجلت روا ہو روزی آسان ہو۔
سورۂ اعلیٰ کا پڑھنا	تمامی امور آسان ہون۔	سورۂ علق کا پڑھنا	عمر درازہ و قدر بلند ہو۔
سورۂ غاشیہ کا پڑھنا	قدر بلند ہو وہ علم منتشر و مشتہر کرے۔	سورۂ قدر کا پڑھنا۔	نیک حال رہے۔
سورۂ فجر کا پڑھنا	جامۂ ہیبت و رعب و خلعت بے بہا و فروغ کا پہنا۔	سورۂ بینہ کا پڑھنا	نیک حال رہے۔
سورۂ بلد کا پڑھنا	غریب و یتیم کو کھانا کھلائے اور عاجزون پر رحم کرے	سورۂ زلزال کا پڑھنا	کافرون پر فتح پاوے۔
سورۂ شمس کا پڑھنا۔	فہم و فراست وذکا ہر شے مین خدا عطا کرے۔	سورۂ عادیات کا پڑھنا	اسپان خوش اندام ملین۔

ردیف سین مہملہ

خواب	تعبیر خواب
سورۂ قارعہ کا پڑھنا	حق تعالیٰ ببرکت عبادت وتقوی اکرم و رحم کرے
سورۂ تکاثر کا پڑھنا	دنیا کے مال سے نفرت کرے۔
سورۂ عصر کا پڑھنا	صابر ہو اور امر حق پر خدا مدد کرے۔
سورۂ ہمزہ کا پڑھنا	مال جمع کرے مگر نیک کامون مین صرف کرے۔
سورۂ فیل کا پڑھنا	دشمن پر فتح پاوے۔
سورۂ قریش کا پڑھنا	طعام داری مساکین و تالیف قلوب مؤمنین کرے۔
سورۂ ماعون کا پڑھنا	دشمن پر ظفر پاوے۔
سورۂ کوثر کا پڑھنا۔	دونون جہان مین خیر و برکت حاصل ہو۔
سورۂ کافرون کا پڑھنا	کافرونپر جہاد کرے انکو مطیع اسلام کرے۔

خواب	تعبیر خواب
سورۂ نصر کا پڑھنا	دشمنون پر مظفر ہو اور موت کا پیغام ہے۔
سورۂ تبّت کا پڑھنا	مراد حاصل ہو سبکدوش ہو زندگی بعیش بسر ہو نام نیک مشہور ہو۔
سورۂ اخلاص کا پڑھنا	گناہون سے توبہ کرے خدا کو واحد جانے اولاد زندہ رہے اہل واقارب مرجاوین وہ تنہا رہ جاوے۔
سورۂ فلق کا پڑھنا	آمرزہ بون یعنی برائیون سے بری رہے
سورۂ ناس کا پڑھنا	بلاؤن سے محفوظ رہے۔
سر اپنا بڑا دیکھنا	سرداری لشکر کی پاوے فتوح غیب ہاتھ آوے
سانپ کو پکڑتے دیکھنا	دشمن پر حملہ کرے خدا فضل کرے۔

ردیف سین مہملہ

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
سانپ کا گوشت کھانا	مال دشمن سے پائے مگر بیجا صرف ہو جائے۔	سر اپنا ننگا دیکھنا	نقصان مال اُٹھاوے یا فریادی آگے حاکم کے جاوے۔
سانپ اپنی گود مین دیکھنا	لڑکا موذی ہو تکلیف پونہچائے یا مال موذی کا ملے تونگر کہلائے۔	سر اپنا کٹا دیکھنا	عُمدہ سرداری کا جانا یہی غم و غصہ کھاتا رہے
سانپ اپنی گود مین دیکھنا	دشمن سے نفع ہو تردد و ملال رفع ہو۔	سر کے بال کٹے دیکھنا	قرض ادا ہو کنج عسرت سے رہا ہو۔
ستارہ ٹوٹتے دیکھنا	غم فرزند اُٹھائے یا مال چوری جائے۔	ساگ دیکھنا	افلاس کمال ہو اہل و عیال سے ملال ہو۔
ستارہ روشن دیکھنا	ترقی اقبال ہو حصول دولت لازوال ہو۔	سولی یعنی دار دیکھنا	ظلم حاکم مین گرفتار رہو یا ایسا بیمار ہو کہ نہ طاقت رفتار اور نہ یارائے گفتار ہو۔
سر مین تیل خوشبودار یا غیر خوشبودار ڈالنا	اگر حسب اندازہ ہی زیب و زینت ہی در صورت زیادتی باعث علالت ہے۔	سُور کا دیکھنا	نوکر ان کافر کی کرے فسق و فجور مین مبتلا رہے
سر کسی جانور کا کھانا	احمق سے منفعت ہو نہایت بلند رتبت ہو۔	سینہ تنگ یا کشادہ دیکھنا	صاحب علم و تحمل ہو۔

ردیف سین مہملہ

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
سلام کرنا اور جواب پانا	کسی عورت سے نکاح کرے۔	سر منڈانا یا بال کٹ جانا	غلام آزاد کرے یا غلام یا مالک مرجائے۔
سوئی سے لباس لوگون کا سینا	لوگون کے حق مین خیرخواہی کرے۔	سلاح ہتیار دیکھنا	برادرون کی حفاظت کرے مکروہات سے باز رکھے
سوئی مین تاگا ڈالنا	عورت مطیع و فرمانبردار ہو۔	سپاہی کو دیکھنا	سردار فوج ہو صاحب اوج ہو۔
سوئی سے عورت کو کپڑا سیتے دیکھنا	شگون بد ہے زبون از حد ہے۔	سرطان دیکھنا	بادشاہ وغیرہ سے منتفع ہو یا متضرر ہو
سوئی کا ٹوٹ جانا۔	پریشان حال ہو۔	سکہ زن یا سکہ گر کو دیکھنا	آدمیون مین خصومت ڈالے۔
سرمہ لگانا	پیرو شریعت ہو نیکی علامت ہے، مژدۂ غیبی کی بشارت ہے		**ردیف شین معجمہ**
سُکر یعنی نشے کی چیز دیکھنا	باعث نقصان و ضرر ہے۔		
سائیس کو دیکھنا	باعث حصول دولت و حکومت ہے۔	شیرازہ باندھنا	پرورش اہل و عیال کرے جمع مال و منال کرے
ستر یعنی پردہ کسی قسم کا دیکھنا	شگون بد زبون از حد ہے۔	شکار کھیلنا	بادشاہ کی مصاحبت پائے یا حکومت کہین کی ہاتھ آوے

ردیف شین معجمہ

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
شملہ پہننا	بے نوکر ہو کر نوکر ہو جاوے یا پامال ہو تو انگر ہو جاوے	شیر نوع معلوم و جنس معلوم دیکھنا	مال حلال و رزق نیک ملے۔
شہد دیکھنا	ایماندار ہو جائے مریض صحت پائے۔	شیر ترش یا کف گرفتہ بالائی برآوردہ دیکھنا	رنج و الم و ضرر و غم مین مبتلا ہو۔
شیطان کو بصورت زن دیکھنا	کار سرکار مین غفلت کرے صحبت عورتون کی رات دن رہے	شیر گاو و بھینس و اونٹنی کا پینا	خیر و برکت کی دلیل ہے۔
شام دیکھنا	غم فرزند اٹھائے صدمے پر صدمے پائے۔	شیر بھیڑ و بکری کا پینا	خیر کی دلیل ہے مگر اول سے کم ہے۔
شتر بے مہار دیکھنا	بدکاری مین بیباک ہو آخر غمناک ہو۔	شیر خچری کا پینا۔	دلیل ہول و عشرت کی ہے۔
شیطان کو اپنا فرمانبردار دیکھنا	دولت حرام پائے دنیا مین بدنام ہو جائے۔	شیر خر خانگی کا پینا۔	مرض شدید مین مبتلا ہو جائے مگر جلد صحت پائے
شیشہ دیکھنا	صدمہ پہونچے شیشہ دل چور ہو نہایت رنجور ہو	شیر آہو و سائر وحشیان	رزق حلال حاصل ہو۔
شمع دیکھنا	سردار لشکر ہو یا ہادی و رہبر ہو۔	ماکول اللحم کا پینا۔	
شیر جانوران نامعلوم کا پینا یا اُنکا مالک ہونا	دین مین خیر و صلاح ہو۔	شیر گھوڑی کا پینا۔	رزق حلال و طیب حاصل ہو۔

خواب	تعبیر خواب
شیر دیکھنا	در راحت باز ہو حاکم کا ہمراز ہو۔
شیر شیرنی کا پینا	دشمن پر ظفر پاوے۔
شیر کتیا کا پینا	دشمن سے ضرر و خوف پہونچے۔
شیر چیتے کا پینا	دشمن سے ضرر پونہچے۔
شیر روباہ کا پینا	دلیل بخیر و توانگری ہے۔
شیر ستورہ کا پینا	مرض میں مبتلا ہو۔
شیر سؤر کا پینا	دلیل بہ تغیر عقل ہے۔
شیر سے منازعت و مقابلہ کرنا	کسی دشمن قوی سے نزاع کرے۔
شیر پر سوار ہونا اور اسکو رام دیکھنا	صاحب حشم و غلبہ ہو دشمن زبردست زیردست ہو

خواب	تعبیر خواب
شیر کے سامنے جانا و باہم پیوستہ و مختلط ہونا۔	کسی بادشاہ و وزیر سے نالان و ہراسان ہو مگر ضرر نہ ہو
شیر کا گوشت کھانا	کسی مرد زبردست سے مال ملے۔
شیر کی کھال یا کوئی عضو کھانا	کسی مرد عالی مرتبت کے ملک کا مالک ہونا
شیرنی کا گوشت مغز وغیرہ کھانا	ملک عظیم ملے۔
شیرنی کا شیر پینا	خیر و برکت ہونے کی دلیل ہے۔
شیرنی سے منازعت کرتے دیکھنا	کسی شخص عالی مرتبہ سے نزاع کرے۔
شتربان کو دیکھنا	دلیل حصول دولت و حکومت ہے۔
شمشیر دیکھنا۔	ملک ہاتھ آئے یا سفر کرے عورت ساتھ لاوے۔

ردیف شین معجمہ

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
شکر چکھنا	حلاوت ایمان کی چاشنی پائے بڑا دیندار کہلائے۔		ردیف صاد مہملہ
شعلۂ آتش دیکھنا	محاسبۂ شاہی مین گرفتار ہو نہایت خوار ہو۔	صندل دیکھنا	شادی ہو خانہ آبادی ہو یا نکوئی مین مشہور نزدیک و دور ہو
شوربا کھانا	صحت کی علامت ہے۔	صابون دیکھنا	صفائے قلب حاصل ہو اگر مریض ہو صحت کامل ہو
شربت پینا	گناہ سے توبہ کرے کسی کا مرید ہو یا وصل معشوق حاصل ہو۔	صراف دیکھنا	برے بھلے کے پہچاننے مین شناخت حاصل ہو دوست معاملگی مین کامل ہو۔
شراب پینا	عیش دنیا مین مبتلا ہو غفلت کا سامنا ہو		
شتر کش و گاو کش کو دیکھنا	عورت ملے۔	صحرا دیکھنا	سفر دور و دراز پیش آئے یا مجنون ہو جائے
شہد کا چھتہ یا شہد یا کوئی شیرینی دیکھنا	مال طیب و رزق حلال ملے۔	صیاد دیکھنا	مکر و حیلہ اختیار کرے راہ بد بتلائے یا وکالت کرے مختار کہلائے۔
شطرنج یا نرد و شطرنج کا دیکھنا	طرف باطن کے مائل ہو زرد رو بہتان کی طرف مشغول رہے		

ردیف ضاد معجمہ وطاے مہملہ

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
صدقہ دیکھنا	اگر دیوے بلا سے نجات پائے اگر لیوے دریوزہ گری مین مبتلا ہو جائے۔	ضیافت کھلانا	سخی مشہور ہونے کی نشانی ہی موجب بہجت و کامرانی ہے
			ردیف طاے مہملہ
صراحی دیکھنا	مئی عشرت سے معمور رہی دولت دنیوی سے مسرور رہے		
صاحب دل کی صحبت مین جانا	اُمید دلی بر آنی کی نشانی ہے سبب حصول کامرانی ہے	طواف کرنا	گناہ سے استغفار کرے متعلقون کا غمخوار رہے
صندوق دیکھنا	غلام یا کنیز خیرخواہ پائے بہت عیش و آرام اُس سے اُٹھائے	طہارت کرنا	بیمار کو صحت ہو محتاج کو فلاحت ہو۔
صومعہ دیکھنا	رہنما کہلائے راہ اچھی آدمیون کو بتلائے۔	طاؤس مادہ دیکھنا	عورت نازنین پائے معشوق اچھا ہاتھ آئے
صُورٔ دیکھنا	باعث رشد و ہدایت ہے۔	طاشش دیکھنا	فراغت کی علامت ہی اسیر ہونے کی دلالت ہے
	ردیف ضاد معجمہ	طوطی دیکھنا	صلاح و فلاح کی نشانی ہے۔
ضیافت کھانا	جسکے یہان کھائے وہ ذائقہ قربت چکھائے	طوق دیکھنا	کنیز و غلام ملنے کی دلیل ہے۔

ل صرّہ بالضم وفتح را [illegible] پوست بزرگ [illegible] کتب [illegible] ۱۲

ردیف طاے مہملہ ومعجمہ

خواب	تعبیر خواب
طرّہ دیکھنا	علم کی دولت پائے سردار قبیلہ ہوجائے۔
طوفان کو دیکھنا	نقصان مال ہو یا صرف اہل وعیال مال ہو۔
طپنچہ مارنا	جسکو مارے اُس سے نفع پاوے یا دشمنی اُس سے بڑھ جاوے۔
طلاق اپنی عورت کو دینا	آپنے عہدے سے معزول ہو۔
طویلہ بڑا دیکھنا	کثرت اہل وعیال ہو یا ترقی مال ومنال ہو بالعکس دیکھے بالعکس سمجھے۔
طوق گلے مین پہنے دیکھنا	اُسکی گردن مین کسی کی امانت پڑے۔
طاؤس نر کو دیکھنا	صاحب حشم یا خداوند خدام ہو۔
طلسم کو دیکھنا	عجائبات علم کی سیر کرے یا سیاحی مین قدم دھرے

ردیف ظاے معجمہ

خواب	تعبیر خواب
ظلم کرنا	بدنام مشہور ہو صعوبت مین گرفتار ورنجور ہو
ظالم کو دیکھنا	بُرے کام کی پاداش مین مبتلا ہو غم کا سامنا ہو

ردیف عین مہملہ

خواب	تعبیر خواب
عورت کا تختہ مع پیچک پانا	دختر کی شادی ہو غم سے آزادی ہو۔
عمارت دیکھنا	دلیل امارت ہی سبب فلاحت ہے۔
عناب دیکھنا	مرض سے صحت پائے معشوق یا یاقوت لب ہاتھ آئے

ردیف عین مهمله

خواب	تعبیر خواب
عمامہ باندھنا	امامت کرے امام کہلائے نفع عوام سے اُٹھائے۔
عطارد دیکھنا	اہل قلم مین لازم ہو یا سفر کا عازم ہو۔
عطر لگانا	دنیا مین حرمت ہو عورت پاکیزہ سے صحبت ہو۔
عندلیب دیکھنا	علم شعر وسخن مین مشہور ہو حاصل سرور موفور ہو
عصا دیکھنا	غلام یا ملازم اچھا پائے نفع اُس سے اُٹھائے۔
عروسی تعارف نام فریقین کے دیکھنا	نکاح ہو یا بادشاہ رس ہو یا کسی شے پر قادر ہو
عروس نامزد تنہا اپنے اوپر دیکھنا	موت کا پیغام ہے دنیا سے جانا صبح وشام ہے
عمامہ ریشمی و پشمی بہ پشم شتر دیکھنا	دنیا و آخرت خراب ہو مال و متاع اُسپر حرام ہو۔
عمامہ سوتی یا پشم گوسفند دیکھنا	دین و دنیا بخیر ہو حکومت نصیب ہو۔

خواب	تعبیر خواب
عورت کا استر پر سوار ہونا	کسی مرد قوی و سخت سی منعقد ہو یا عازم سفر ہو
عورت کو اپنے شوہر کا لباس پہنے دیکھنا	حاملہ ہو لڑکا جنے یا اُسکی بہن پیدا ہووے۔
عورت کا لباس مرد کو پہنے دیکھنا	عورت کے حق مین بہتر ہے۔
	خوف شدید اور عجز خاطر کو پہنچے مگر جلد دفع ہو جائے
عطسہ یعنی چھینکنا	اگر سامع نے یرحمک اللہ کہا تو مژدہ حج و عمرہ ہے
عصا دیکھنا	بزرگ و بلند قدر رہو۔
عطر زیتون کا دیکھنا	موجب وفور خدمت شاہی کی دلیل ہے۔
عود سوزی دیکھنا	باعث ثنا و مدح ہے مگر بہ ہول و خطر ہے۔
عضو تناسل قطع ہو جانا	لڑکا یا خود مر جائے۔

ردیف عین مہملہ

خواب	تعبیر خواب
عضو تناسل کا زیادہ یا کم ہو جانا	لڑکا یا خود مر جاوے۔
عضو تناسل کا دو یا زیادہ ہونا	بقدر زیادتی یا کمی کے اولاد پیدا ہو
عضو مستور عورت کا کھل جانا	برہنگی و بے ستری کی دلیل ہے۔
عریانی تن کی دیکھنا	جس شے کا طالب ہو اُس سے محروم ہو۔
عریانی تن مگر شرمگاہ کا چھپا ہوا دیکھنا	اگر عابد کامل ہو طالب دنیا ہو دنیا حاصل ہو۔
عقاب دیکھنا	ظلم ظالم مین گرفتار ہو سخت مجبور و ناچار ہو۔
عود کی خوشبو دیکھنا	آوازہ بلند ذکر جمیل ہو۔
عضو جسم کا آہنی دیکھنا	عمر دراز ہونے کی دلیل ہے۔

خواب	تعبیر خواب
عیدین کا دیکھنا	کشادگی رزق ہو رفع غم و کرب ہو۔

ردیف غین معجمہ

خواب	تعبیر خواب
غوطہ لگانا	فکر و اندیشے سے نجات پائے دور آفات ہو جائے
غربال دیکھنا	فکر اہل و عیال مین مبتلا ہو ملال کا سامنا ہو
غبارہ دیکھنا	عیش و عشرت کی نشانی موجب بلندی و کامرانی ہے
غرفہ دیکھنا	عیش مین مبتلا ہو فراق کا سامنا ہو۔
غلام و کنیزک کو فروخت کرنا	رنج و غم سے آزاد ہو اگر خرید کیا ہو تو برعکس ہو۔
غلیواز و زغن دیکھنا	باعث ترقی مراتب ہے۔
غسل خانہ دیکھنا	موت کی نشانی ہے راہ سفر آخرت جلد پیش آتی ہے

ردیف غین معجمہ

خواب	تعبیر خواب
غول جانور ننگا دیکھنا	حکومت وسرداری کی دلیل ہے۔
غسل کرتے دیکھنا	بیماری سے صحت پائے یا سفر کرے بخیر گھر واپس آئے۔
غالب آپکو دشمن پر دیکھنا	نفس امارہ پر غالب ہو دین کا طالب ہو۔
غم کا دیکھنا	باعث لہو ولعب ہے
غراب کا دیکھنا	فاسق ہونے کی دلیل ہے توبہ کرے انجام بخیر ہو

ردیف فاء

خواب	تعبیر خواب
فرشتوں کو جوق جوق دیکھنا	چوری سے مال کا نقصان ہو نہایت حیران پریشان ہو
فرشتوں کے ساتھ آپکو اڑتے دیکھنا	درجہ شہادت پائے پریشانی سے نجات مل جائے
فاختہ دیکھنا	فقیری کی نشانی ہے باعث سرگردانی ہے
فرشتگان مقرب کا دیکھنا	مرتبہ بلند ہو خلق اس سے بہرہ مند ہو۔
فانوس کو روشن دیکھنا	علم دنیوی سے بہرہ یاب ہو افعال سیہ سے اجتناب ہو
فیروزہ دیکھنا۔	دشمن پر فتحمند ہو اگر بے اولاد ہو فرزند ہو۔
فصد کھلواتے دیکھنا	مریض ہی صحت پائے مال ضبط سرکار ہو جائے
فالودہ پینا۔	مریض ہو صحت پائے مفلس ہو متمول ہو جائے
فوارہ دیکھنا۔	ملکوں سے مرہو رنج کافور ہو خزانہ غیب پائے امیر کہلائے
فربہ جانور کو دیکھنا	احمق سے نفع پائے پریشانی دور ہو جائے۔
فربہی وورم دیکھنا	مال دستیاب ہو پریشانی کو جواب ہو۔

ردیف فا

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
فضلات مردم و دواب کا دیکھنا	اگر بدبو ہو مال حرام ملے وبقدر کمی وبیشی بوگندہ مین کمی وبیشی ہو۔	فلک اپنے گرد پھرتے دیکھنا	سفر نصیب ہو۔
فضلات جانوران حرام کا دیکھنا	مال حرام ملے۔	فیل پر بغیر حرب سوار ہونا یا اُسکا مالک ہونا یا چلانا	مرتبۂ عالی سلطان عجمی سے پاوے۔
فرج زن بجاے ذکر خود دیکھنا	ذلت وخواری نصیب ہو	فیل کا گوشت کھانا	بقدر گوشت مال وغلبہ حاصل ہو۔
فرش سطبر کشادہ ونو دیکھنا	کشادگی رزق و درازی عمر بعیش ہونیکی دلیل ہے	فیل کے بال وکھال وغیرہ کھانا	ایضاً
فرش سطبر وضخیم مگر کوتاہ دیکھنا	تنگدستی کی دلیل ہے۔	فیل پر وقت حرب کے سوار ہونا	دشمن پر غالب ہو۔
فرش باریک مگر وسیع دیکھنا	وسعت رزق وکوتاہی عمر کی دلیل ہے	فیل پر زن مین آپکو سوار دیکھنا	زوجہ کو طلاق دے۔
فرش کوتاہ وکہنہ وباریک وپیچیدہ دیکھنا۔	فال بد بزبون از حد ہے۔	فاختہ کا گوشت کھانا یا اُسکا مالک ہونا۔	عورت کم عقل وبیدین سے کام پڑے۔

خواب	تعبیر خواب
فاختہ کے پر یا انڈے پانا	مکر و فریب عورت مین گرفتار ہو
فاختہ کو تیر یا پتھر مارنا	زن زشت کو دشنام دے و بہتان لگائے۔

ردیف قاف

خواب	تعبیر خواب
قرآن شریف پڑھنا	نیک کام کرنے کی دلیل ہو نہایت عنایت رب جلیل ہے
قرآن شریف لکھنا	روزی اکل حلال پائے بڑا متقی و پرہیزگار کہلائے
قسم کھانا	روزی کم ہو بہت غم ہو۔
قسم کھلوانا	خیانت مایہ ہو شماتت ہمسایہ ہو۔
قبا پہننا	دولت زیادہ ہونے کی علامت ہے یا شادی دوسری ہونے کی بشارت ہے۔

ردیف قاف

خواب	تعبیر خواب
قدم رسول دیکھنا	زیارت حرمین شریفین و مدینہ منورہ نصیب ہو دعا مجیب ہو
قربانی کرنا	قرض دنیوی سے نجات ہو ترقی حیات دور آفات ہو
قلمدان پانا	عہدۂ وزارت پائے نامی امیر کہلائے۔
قافلہ دیکھنا	سوداگری مین نفع بہت پائے سفر حج پیش آئے
قصاب دیکھنا	ظلم ظالم مین گرفتار ہو نہ طاقت رفتار نہ حالت گفتار ہو
قبر دیکھنا	ترقی عمر کی دلیل ہے اگر مریض ہو عمر قلیل ہے۔
قوس قزح دیکھنا	غلے کی ارزانی ہو اللہ کی مہربانی ہو۔
قلم دیکھنا۔	فن خوشنویسی مین طاق ہو۔
قے کرنا۔	مریض ہو صحت ہو۔

ردیف قاف

خواب	تعبیر خواب
قلعہ دیکھنا	دشمن سے نجات ہو دور آفات ہو
قفل کھولنا	امید بر آنے کی نشانی ہے اور بند کرنا باعث حیرانی ہے
قمقمہ دیکھنا	عیش و عشرت کی دلیل ہے مگر زندگی قلیل ہے
قد اپنا کوتاہ دیکھنا	فتنۂ عالم آشوب ہو تکلیف دہی خلایق مین نام نزدیک و دور ہو۔
قرنا بجانا	فتنۂ و فساد مین مبتلا ہو رنج و الم کا سامنا ہو۔
قرنفل دیکھنا	علم و حکمت سیکھنے کی نشانی ہے یا رنج و زحمت پیش آنی ہے
قینچی دیکھنا	دوست سے ملال ہو دولت کا زوال ہو۔
قوت دیکھنا	قوت دین اور خوبی حال کی دلیل ہے
قوت سے زیادہ بار اُٹھانا	دلیل ہم و غم کی ہے۔
قے بغیر کریہ الرائحہ دیکھنا	گناہ سے توبہ کرے۔
قے متعفن کرتے دیکھنا	خود باعث اذیت و گزند اپنے کا ہو۔
قضیب اپنا مثل قضیب جانوران دیکھنا	کثیر النسل ہونے کی دلیل ہے۔
قمیص پہنے دیکھنا	رزق بقدر کوتاہی و کشادگی کے ملے۔
قبا پہنے دیکھنا	فرحت و مسرت ہو۔
قیامت بپا دیکھنا	ملک مین عدل ہو اگر باشندے ظالم ہین خدا انسے انتقام لے
قوس قزح کا با انواع مختلف دیکھنا	سبز رنگ دلیل امن ہے زرد دلیل مرض سرخ دلیل خونریزی ہے
قیامت و ہول قیامت سے کچھ دیکھنا	دنیا و آخرت بخیر ہو۔
قصر کا کسی شہر مین دیکھنا	رفعت و سعادت دنیا مین حاصل ہو۔

خواب	تعبیر خواب
قاضی غیر معروف کو دیکھنا	دیدار خدا نصیب ہو۔
قلعہ و حصار مین داخل ہونا	دین و دنیا قائم رہے۔
قلم کا ساتھ قرآن مجید کے دیکھنا	علم و حکمت حاصل ہو۔
قصاب سے گوشت لینا یا اُسکے گھر جانا	جس عضو کا گوشت لیوے وہ بیمار ہو اگر دام دیے ہین جلد صحت ہو۔
قصاب کو دیکھنا	اگر نا معلوم ہے ملک الموت ہے، اگر شناسا ہے تو تلاش رزق مین سرگردان رہے۔
قلم کا دوات کے ساتھ دیکھنا۔	فرزند ارجمند ہو۔

ردیف کاف عربی

خواب	تعبیر خواب
کوہ سیاہ مین سبب اپنے فرزند کے پناہ پانا	فرزند قرض باپ کا ادا کرے اور ہر طرح فرمانبردار رہے
کفن کشی کرتے دیکھنا	پیروی دین کی کرے اگر میت نا معلوم ہے تو جس امر کی کوشش کرے حاصل ہو
کفن کش کو دیکھنا	علم و حکمت حاصل کرے۔
کلاہ بلند دیکھنا	عز و شرف دنیا مین حاصل ہو چین کامل ہو
کلاہ مین خوبی یا زبونی دیکھنا	بقدر اُسکے اُسکے رئیس کا حال ہو۔
کلاہ دریدہ و چرک آلودہ وغیرہ دیکھنا	یہ بدحالی اُسکے رئیس کی نسبت ہو
کلاہ طلائی یا نقرئی یا مغرق بجواہر دیکھنا	عزت و مال کثیر حاصل ہو دین ضائع ہو۔

ردیف کاف عربی

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
کلاہ عورت کو دیتے دیکھنا	وہ عورت کسی مرد سے نکاح کرے۔	کمان ٹوٹ جاتے دیکھنا	عزل مراتب ہو یا مصیبت پسر یا برادر کو پیش ہو
کمربند کٹ گیا یا ٹوٹ پڑا یا چھن جانا دیکھنا۔	نہایت بد ہے۔	کمان دوش سے اُتارنا و زمین پر ڈالنا۔	عزل مراتب ہو یا سفر کرے مگر بسلامت واپس آئے۔
کمربند زرین دیکھنا	مال و بزرگی حاصل ہو مالک ملک ہو بشرطیکہ اُسکے لائق ہو اور یہ امور نصف عمر مین ہون۔	کوڑھ دیکھنا	خیر و برکت و حکومت کی دلیل ہے۔
کنگن ہاتھون مین پہنے دیکھنا	کسب و دستکاری سے عشرت مین رہے۔	کمان سازی کرنا	غلبہ و دبدبہ حاصل ہو یا پسر و برادر کا نکاح کرے پوتا یا بھتیجا پیدا ہو۔
کنگھی ڈاڑھی یا سر مین کرتے دیکھنا	غم و الم دور ہو عیش و سرور موفور ہو۔	کمان کسی سے چھینا پھر اُسکو دینا یا کعبے مین کچھ نقصان یا زیادتی یا حادثہ دیکھنا۔	جو کام کرے سخت ہو جائے اور ملتوی رہے جو نقصان وغیرہ دیکھے نسبت حاکم وقت کے ہو
کمان کشیدہ دیکھنا	حشمت و دبدبہ حاصل ہو۔		
کمان لڑکے کے ہاتھ مین دیکھنا	زوجہ حاملہ ہو فرزند نرینہ پیدا ہو۔		

ردیف کاف عربی

خواب	تعبیر خواب
کعبے کو مکے کے سوا اور شہر مین دیکھنا	باعث امن اُس بلد کا ہے۔
کعبہ کو دیکھنا و طواف کرنا و مناسک حج بجالانا	صلاحیت دین ہو رفعت و منزلت قرین ہو۔
کعبے کو پس پشت دیکھنا یا اسکی چھت پر نماز پڑھنا	اسلام سے روگردانی کرے جلد توبہ کرے۔
کواکب مین کوئی امر صالح یا تغیرات سے دیکھنا	وہ نسبت اشراف و اکابر اس بلاد کے متصور ہو
کوکب مریخ کو دیکھنا	سردار فوج ہو۔
کوکب زحل کو دیکھنا	مورد تعزیر ہو۔

خواب	تعبیر خواب
کوکب مشتری کو دیکھنا	خزینہ دار و مدبر ارکان پادشاہی ہو۔
کوکب زہرہ کو دیکھنا	ندیم سلطان ہو عورت دیکھے بادشاہ کی زوجہ ہو
کوکب عطارد کو دیکھنا	دیوان خانۂ شاہی کا منشی ہو۔
کوکب کثیر یا قلیل پر دستگاہ ہونا	بقدر اُسکے مردم اکابر و اصاغر پر مالک ہو
کواکب کو شبانی کرتے دیکھنا	متولی و متکفل امور مردم ہو۔
کواکب کو کھانا	مال مردم اکابر کا کھائے۔
کواکب کو ایک جا مجتمع دیکھنا	جس امر کی کوشش کرے حاصل ہو
کواکب کا آسمان سے طرف زمین کے واقع ہونا	اُس مقام مین نزول عذاب باری ہو

ردیف کاف عربی

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
کواکب کو اپنے ہاتھ مین لینا	فرزند ارجمند ہو۔	کنوئین سے پانی پلانا و چھڑکنا	مال بے فائدہ صرف کرے۔
کواکب کا ٹوٹنا۔	توانگر محتاج ہو محتاج درجہٴ شہادت پائے۔	کنوئین سے پانی نکالنا اور لوگونکو پلانا	نام بلند ہووے اور تا پیری بعیش و عشرت رہے
کواکب کو پس پشت دیکھنا	خشک سالی کی دلیل ہے۔	کنوئین سے پانی بھرنا اور درختون کی جڑ مین ڈالنا۔	یتیمون کی پرورش کرے۔
کنوان کھودنا اور اوسکے کھودنے پر قادر نہونا۔	تنگی معیشت ہو	کنوئین سے پانی بھرنا اور اُس مین گندی چیز نکلنا۔	مال حرام سے ملجائے
کنوان اپنے گھر مین کھودنا اور آب کا جوش کرکے بلند ہونا۔	مال طیب بغیر سختی و محنت کے حاصل ہو۔	کنوئین مین گر پڑنا یا اُترنا۔	اول غم بعد شادی ہو
کنوئین کا پانی نکل جانا۔	مال تلف ہو تھوڑا باقی رہے۔	کشتی پر سوار دیکھنا	محاسبہٴ ملوک مین ماخوذ ہو مگر نجات پائے
کنوئین سے پانی لینا اور آبپاشی سے زراعت کرنا۔	مال راہ خدا مین صرف کرے۔	کشتی مین داخل ہونا اور اُسمین پانی بھی ہونا	رنج و مرض قید و بند مین گرفتار ہو مگر فضل آلہی سے نجات ہو

ردیف کاف عربی

خواب	تعبیر خواب
کشتی سے خشکی مین آنا	غم والم سے نجات حاصل ہو۔
کشتی کو خشکی مین دیکھنا	رنج وصدمہ پونہچے مگر نجات بھی ہوجائے۔
کشتی اپنی سواری کے لیے آتے دیکھنا	سختی سے نجات پائے۔
کھال مشکیان اور شیر کی اور چربی وغیرہ دیکھنا	فراخ روزی کی دلیل ہے۔
کتے کو بھونکتے یا کاٹتے یا کپڑا پھاڑ ڈالتے دیکھنا۔	سخن زشت سے وہ پردہ دری وآبرو ریزی کرے۔
کتے کا گوشت کھانا	دشمن پہ غالب ہو اور مال حاصل کرے۔

خواب	تعبیر خواب
کتیا کا دودھ پینا	خوف شدید مین مبتلا ہو
کرم سرگین وجعلان کا دیکھنا	ٹلی کی آمد ہو زراعت کی بربادی ہو
کچھوے کا اپنے منزل ومکان مین آنا یا اُسپر مالک ہونا۔	مرد کاذب پر ظفر پاوے اور ربط ضبط فیمابین بخوبی بڑھ جاوے۔
کچھوے کا گوشت کھانا۔	فن غواصی سے آشنا ہو جاوے
کچھوے کا کسی راستے یا مزبلے پر دیکھنا	اُس نواحی کے باشندون سی علم مجہول ہوجائے
کرگس کو اپنے قابو مین دیکھنا	بادشاہ ہو یا مال یا ریاست حاصل کرے
کرگس کو اُٹھالینا اور باہم عرضاً وساتھ اُڑنا۔	بادشاہ مہربان ہو ترقی مراتب زیادہ ہو

ردیف کاف عربی

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
گرگس کو آسمان کی طرف اڑتے دیکھنا	سفر مین موت ہو	کتب مختومہ یعنی نوشتہ مہری کشادہ یا بند دیکھنا	باعث خیر وحصول میراث ہے۔
کبک وتدرو کو دیکھنا	زن غدارہ وبیوفا سے کام پڑے زندگی پہ تنگ کرے	کتب علم فقہ ودین کا دیکھنا	علم فقہ وحکمت کی تحصیل کرے۔
کبوتر کو دیکھنا	زن خوش مزاج سے کام پڑے یا دختر پیدا ہو۔	کجی وتشنج اعضا مین دیکھنا	دلیل کوتاہی عمر کی ہے
کرسن کو دیکھنا	منفعت دنیا حاصل ہو۔	کوئی شی اپنی طرف کرلینا یا مانگ لینا	حق ومرافق اورون کا لے۔
کفت گر کو دیکھنا	تالیف قلوب میان مردمان یا مزدورن کے کرے	گُسم دیکھنا	مال طبیب بلے اگر اُس سے رنگا دیکھے مرض مین مبتلا ہو
کاتب کو دیکھنا	رزق بکوشش وسعی حاصل کرے۔	گنبد دیکھنا	کسی بزرگ سے علم فقہ حاصل کرے۔
کنجڑے کو دیکھنا	طاقت لسانی وقیافہ شناسی مین طاق ہو	کوکب مشتری کو اپنی شرمگاہ سے نکلتے دیکھنا	علم ومذہب شافعی مین مشتہر ہو
کہار کو دیکھنا	فائز المرام ہو۔		
کتب یا نوشتہ پیچیدہ دیکھنا	خیر وبہبودی غیب سے ظاہر ہو۔		

ردیف کاف عربی

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
کنجشک نر کو دیکھنا	بلند قدر ہو	کرم شب تاب کو دیکھنا	قسم جواہرات سے پڑا پائے عورت اچھی ہاتھ آئے۔
کنجشک مادہ کو دیکھنا	زن شوم ملے۔	کرتا پہنے دیکھنا	علم و فضل سے حصول اکتساب کرے جہل سے اجتناب کرے
کنجشک بکثرت دیکھنا اور اُنکو شکار کرنا	مال غنیمت ملے	کرگلہ دیکھنا	زیادہ عصیان کی نشانی ہے انجام میں ندامت اور پریشانی ہے۔
کنجشک کی آواز سننا	خبر خوشی کی سنے۔	کوا دیکھنا	بولتا دیکھے عزیز مسافرت سے واپس آئے خاموش دیکھے رنج اٹھائے۔
کعبہ شریف کا طواف کرتے دیکھنا	خدمت والدین کی کرنے کی اشارت ہے حصول دولت دارین کی بشارت ہے۔	کمرکھ کھانا	دوستوں سے ترشروئی ہو محبوب سے بدخوئی ہو۔
کمل اوڑھتے دیکھنا	فسق و فجور کی دلالت ہے مال مردم خوری کی علامت ہے	کلاہ لمبی پہننا	پلٹن میں ملازم ہو جائے اگر ملازم ہو سرداری پائے
کوہ قاف کی سیر کرتے دیکھنا	وارث سلطنت ہو ہفت اقلیم کی بادشاہت ہو۔	کرم کھانا	قحط کی نشانی پیش آئی ہے۔

ردیف کاف عربی

خواب	تعبیر خواب
کیچڑ مین گرتے دیکھنا	قرضدار رہو صعوبت مین مبتلا ہو۔
کُسُم کا کھیت دیکھنا	ہمچشمون مین سرخرو ہو تولد دختر نیک خُو ہو۔
کوڑا دیکھنا	عورت پاکیزہ پائے رات دن مزے اُڑائے۔
کھچڑی کھاتے دیکھنا	مرض کی علامت ہو بیماری کی شکایت ہو۔
کرن پھول دیکھنا	ترقی مال کی ولالت ہو زیور بنوانے کی علامت ہے
کشتی کو ڈوبتے یا خشکی مین آتے دیکھنا	سخت مصیبت مین گرفتار رہو نہ کوئی یار نہ مددگار ہو
کشتی پار ہوتے دیکھنا	غنچہ آرزو کھل جائے مراد دلی مل جائے۔
کمر باندھتے دیکھنا	سفر دور و دراز پیش آئے صعوبت و مصیبت اُٹھائے۔

خواب	تعبیر خواب
کھرپا دیکھنا	تکلیف رسان خلائق ہو محتاج نان شبینہ مع علائق ہو
کرم کلہ دیکھنا	دسترخوان کشادہ ہو ہر ایک کو فائدہ ہو۔
کافور دیکھنا	روپیہ بہت پائے یا عارضہ لقوہ اُٹھائے۔
گنبد دیکھنا	عشق مین معشوق بدخو کی گرفتار رہو دنیا مین بے اعتبار ہو
کشتی دیکھنا	رنج دور رہو حاصل سرور ہو سفر کی علامت ہے روپیہ پانے کی بشارت ہے۔
کباب کھانا	ماندگی رفع ہو تکلیف و رنج دفع ہو۔
کنول جلاتے دیکھنا	خلائق کو نادم کرے اطاعت خدا دمبدم کرے
کپڑا دھوتے دیکھنا	گناہ سے پاک ہو کبھی نہ غمناک ہو۔

ردیف کاف عربی

تعبیر خواب	خواب
بادشاہت سے وسسانہ ہو در راحت باز ہو۔	کرن آفتاب کی دیکھنا
عورت کو فائدہ ہو مرد کو غم زیادہ ہو۔	کان دیکھنا
رنج کا ظہور ہو تکبر اور نخوت دور ہو۔	کنگوران گرتے دیکھنا
دشمن خروج کری اللہ اُسکا عروج کرے۔	کائی پھٹتے دیکھنا
مہم سخت پیش آنی ہے مگر آخر کو حصول کامرانی ہی	کفن پہننا
مشقت کی نشانی ہو قسمت مین مصیبت و سرگردانی ہے	کشتی کرنا
آشوختگی رنج و مصیبت کی دلیل ہے سمجھے اگر عقیل ہے	کباب بھونتا

ردیف کاف فارسی

تعبیر خواب	خواب
سفاہت مین مشہور ہو مثل شیطان مغرور ہو۔	گدھا دیکھنا
سرسبزی کی نشانی ہی سبب حصول کامرانی ہے	گھاس دیکھنا
کار شاہی مین پیش ہو حسن اقربا و خویش ہو یا دشمن ہو غلبہ پاوی اُس سے فائدہ اُٹھاوی۔	گورخر شکار کرتے دیکھنا
غضب شاہی مین گرفتار ہو۔	گرجنا بادل کا دیکھنا
حکومت و ریاست پاوے عہدہ بڑا ہوجاوے	گھوڑا دیکھنا
دولت و نعمت زیادہ ہو تجارت مین فائدہ ہو۔	گوبر یا گوبر کا پھول دیکھنا
دولت حرام پائے صرف بیجا ہوجائے۔	گوہ ہاتھ مین لیتے دیکھنا
چرب زبانی مین مشہور ہو اگر تجارت کری نفع ضرور ہو	گھی کا کُپا دیکھنا۔
مال احمق کا غصب کرے ہو اسکی پاداش سے غضب مین پڑے	گدھی کا گوشت کھانا۔

ردیف کاف فارسی

خواب	تعبیر خواب
گلاب دیکھنا	معشوق یا گلبدن پاوے یا کام نیک کرے خلق میں اچھا کہلائے
گونگا آپ کو دیکھنا	غیرت و پشیمانی کی دلیل ہے یا آقا سے امید نفع و حاصل قلیل ہے
گریہ دیکھنا	ایذا رسانی خلق کا خیال ہو مگر عمل میں لانا محال ہو۔
گدھے پر آپ کو دیکھنا	اگر منہ طرف کعبہ ہو سفر حج کرے پورب و اُتر طرف منہ ہو بُرے افعال کرے
گوبر دیکھنا	حاکم یا سردار سے نفع ہو مگر قلیل ہو۔
گرم پانی پینا	عارضہ تپ میں ماندہ ہو پینے کو جوشاندہ ہو۔
گدھے پر سے اُترنا	سفاہت سے دور ہو دولتمند ضرور ہو۔
گدھی کا دودھ پینا	تجارت میں نفع ہو بیماری دفع ہو۔

خواب	تعبیر خواب
گاجر کھاتے دیکھنا	قوت باہ زیادہ ہو ممسک سے فائدہ ہو۔
گوندھ کرتے دیکھنا	ہمچشموں میں ذلیل ہو صحت پائے اگر علیل ہو۔
گھر زمین پر بناتے دیکھنا	تولد فرزند ہو یا دختر ارجمند ہو یا کوئی کتاب تصنیف کرے
گھر میں غیر کے داخل ہونا	اُس گھر کی عورت سے خیانت کرے خلق اوسکی شماتت کرے
گلوبند و گاؤ تکیے میں کچھ خلل دیکھنا	وہی خلل نسبت غلام و خادم و کنیزوں میں واقع ہو۔
گولی بندوق سے یا غلہ گولی چلانا	خرابی دین کی علامت ہے۔
گلہائے خوشبودار دیکھنا	اگر درختوں سے علیحدہ دیکھے دنیا ملے ورنہ ولد صالح ہو
گردن کی درازی دیکھنا	امانتدار و متدین ہو کم دیکھے خائن ہو
گردن مارنا و سر جدا ہو جانا۔	غلام کو آزادی مقروض کو ادائے قرض سے شادی ہو

ردیف کاف فارسی ولام

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
گھر سونے کا دیکھنا	دشمن سے لاگ لگے گھر مین آگ لگے۔	کرگ کو آگے آتے دیکھنا	دشمن صعب سے مقابلہ ہو۔
گھر جواہر کا دیکھنا	علم و فضل سے مالا مال ہو حاصل دولت لازوال ہو		**ردیف لام**
گلہ گاوان نامعلوم کا کسی مکان یا محلہ مین داخل ہوتی دیکھنا	وبا یا امراض اس مقام پر واقع ہو بشرطیکہ رنگ مختلف ہو۔	لواطت جانوران یا انسان سے کرنا	جس سے کرے اسکا مالک ہو۔
گاو سیاہ فربہ دیکھنا	فراخ رزق مالا مال ہو لاغر دیکھے قحط سال ہو۔	لباس سفید دیکھنا	کشایش رزق و فلاح کلی حاصل ہو
گوشت گاو کا کھانا	مال حاصل ہو فراغ کامل ہو۔	لباس زرد پہنے دیکھنا	باعث اندوہ ہی اگر جبہ ہے تو غم نہین ہے۔
گاو دوہنا دودھ پینا۔	محتاج تو انگر ہو غلام آزاد ہو صاحب مولاة کنیز و غلام کا نکاح کرے	لباس سیاہ شل عادت معہود پہنے دیکھنا۔	دلیل صلاحیت ہے اور جملہ اشیاے سیاہ کی یے تعبیر برخلاف انگور سیاہ کے
گاو حاملہ دیکھنا	خیر و برکت حاصل ہو۔	لباس نیلا پہننا	حج نصیب ہو دعا مجیب ہو
گورکن و زمین کن سے مضرت پانا	معزولی عہدہ یا موت پر دلیل ہے۔	لباس سرخ پہننا	کارزار پیش ہو مہم درپیش ہو۔

ردیف لام

خواب	تعبیر خواب
لباس گیروا پہننا	تہمت دنیا مین سے یا قید فرنگ مین رہے۔
لوہا دیکھنا	دشمن سخت سے مقابلہ ہو باہم مجادلہ ہو۔
لیزم ہلانا	عورت سے نفرت ہو طاقت مین شہرت ہو
لہو و لعب دیکھنا	خصومت و شورانگیزی کرے
لگام دیکھنا	عورت مطیع ہو یا مرتبہ رفیع ہو۔
لہسن و پیاز خریدنا	کسی امیر کے یہان کار رزیل مین نوکر ہو۔
لعل دیکھنا	فرزند ارجمند کی بشارت ہے یا عورت حسین ملنے کی اشارت ہے
لونگچڑے کھانا	اہل بازار سے صحبت ہو مگر نفع قلیل ہو۔
لومڑی دیکھنا	عورت مکارہ بلا زیست تنگ کرے رات دن جنگ کرے۔
لوح دیکھنا	اگر لکھی دیکھے حالات آئندہ سے مطلع ہو جائے سادی دیکھے سادہ لوح کہلائے۔

ردیف میم

خواب	تعبیر خواب
مصور دیکھنا	نصیب ضلالت ہو جلد توبہ کرے تا بخیر عافیت ہو
مکھی دیکھنا	مرض جراحت مین مبتلا ہو تکلیف کا سامنا ہو۔
مُردی کو اپنے پاس آتے دیکھنا	مقیم سفر کرے مسافر گھر آئے محبوس خلاصی پائے بیمار تندرست ہو جائے
مہر دیکھنا	سلطنت کہین کی پائے یا حکومت ہاتھ آئے۔
مونگا دیکھنا	معشوق سرخ لب پائے۔
مرغ کو اذان دیتے دیکھنا	ذی کمالوں کی خواری ہو بے کمالوں کی گرم بازاری ہو

ردیف میم

خواب	تعبیر خواب
مینڈھے کے گلے کا مالک ہو جانا۔	مالک وقار در مردمان اشراف و عظیم الشان پر ہو
مینڈھے یا اور جانور کو قربانی کرنا	قید سے خلاصی ہو مریض صحت پائے فقیر توانگر ہو جائے
مادہ شتر کا گوشت کھانا یا اسپر سواری پانا	ملک عظیم ملے۔
مینھ بکثرت برسنا	رحمت ایزدی نازل ہو فضل خداوندی شامل ہو
مادہ شتر کا دودھ پینا	دشمن پر ظفر پاوے۔ اگر مغلوب ہو غالب ہو
ماہی سے مقابلہ کرنا اور اسپر غالب آنا	حصول دولت و حکومت ہو
ماہی گیر کو دیکھنا	ثبات دین کی دلیل ہے
مقید نماز در مسجد یا بجا دیکھنا	ثبات دین کی دلیل ہے۔
مار کا ڈسنا	دشمن سے امر زبون پہونچے۔

خواب	تعبیر خواب
مکتب خانہ دیکھنا	حاکم کی خدمت مین پیش ہو معینہ پیش ہو
مقید بلد یا محل یا محلے کا دیکھنا	کسی عورت سے نکاح کرے۔
مینڈھا پانا یا اسکا مالک ہونا	صاحب مال و دبدبہ ہو یا کسی مرد توانا پر غالب ہو
مینڈھا بغیر گوشت ذبح کرنا	کسی صاحب مال و مقدرت و عزت پر ظفر پاوے۔
مینڈھے کی کھال کھینچنا و گوشت کھانا	کسی کا مال کھا جائے۔
مینڈھے پر سوار ہونا اور اسکو مطیع اپنا دیکھنا۔	کسی کا بار امانت اٹھائے۔
مینڈھے کا اپنے اوپر چڑھ بیٹھنا	صاحب خواب پر کوئی قہر و ظلم کرے۔
مینڈھے کا ٹکر مار کر زمین پر آپکو گرانا	مغلوب دشمن ہو۔

ردیف میم

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
موتی لڑی دیکھنا	حافظ قرآن ہو پھر ایک اسکا ثناخوان ہو۔	مار کا مار ڈالنا	دشمن پر ظفر پاوے مراد دل بر آوے۔
مرغابی کو دیکھنا	حاکم سے فائدہ مند ہو نہایت خورسند ہو۔	مار کو دو ٹکڑے کر ڈالنا	دشمن سے داد پاوے۔
مسہری دیکھنا	موت آنے کی نشانی ہے توبہ کرے ورنہ پشیمانی ہے	مار کے دست و پا ہونا	دشمن کی دشمنی زیادہ ہو۔
مقید بزنجیر یا پھندے یا جال میں پھنسنے یا غار یا چاہ میں دیکھنا	مکر و دغا میں گرفتار ہو ذلیل و خوار ہو۔	مار کا اپنے گھر میں داخل ہونا یا گھر میں دیکھنا	صاحب خانہ یا عزیزون سے عداوت ہو۔
		مسجد دیکھنا	دلیل خیر و برکت ہے سبب دفع شر و آفت ہے
منبر پر چڑھنا	رتبہ بلند ہو یا کوئی رشتہ دار دولتمند ہو۔	مار کا گھر سے نکلجانا	یہ شخص دشمن سے اور دشمن اس سے دور ہو۔
موزہ اوتارنا	جورو کو طلاق یا بیٹے کو نامہ عاق دے۔	مار کا سقف یا دکان یا شکم سے نکلتے دیکھنا	کوئی عیال اسکا دشمن ہو مگر اس سے دور ہو
میخ دیوار میں گاڑنا	ذکری استحکام پاوے یا مالک کے دل میں جگہ کرے انعام پاوے	منارہ دیکھنا	حاکم کا ہمراز ہو در راحت باز ہو۔
موتی پرونا۔	فن انشا میں طاق ہو شہرہ آفاق ہو۔	مار کا مالک ہونا اور خوف نہ کھانا	ملک و نعمت و بادشاہت ملے بشرطیکہ اسکے لائق ہو

ردیف میم

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
مار سیاہ و سفید و درخشان دیکھنا	لشکر کشی کرے و دولت این حاصل ہو خزینہ بادشاہی ملے	موش کا شکار کرنا	کسی عورت فسادی و بدخو سے سابقہ ہو رنج لاحقہ ہو۔
مچھر و پروانے کو دیکھنا	نہ نفع ہو نہ ضرر ہو۔	ماہی کلان و تازہ و عدد نا معلوم کا ملنا یا کھانا۔	مال غنیمت ملے خزو ہین تو غم و الم سامنے آئے یا عورت بقدر تعداد ملین اُنسے فائدہ حاصل ہو۔
ملخ و مگس کا ہجوم جاتے دیکھنا	اُس جگہ ملخ پڑین زراعت تباہ کرین۔	ماہی نمک آلودہ و برشتہ کھانا	غلام و خادم یا برادر سے رنج پہونچے۔
مکڑی دیکھنا	گناہ سے توبہ کرے خدا عاقبت بخیر کرے۔	مینڈک متعدد یا منفرد دیکھنا	خود عابد و زاہد ہو یا کسی عابد سے مستفید ہو
موزہ دوز یا مشک دوز کو دیکھنا	شاعر ہزلیات کا ہو۔	مینڈک بکثرت کسی مکان یا محلہ کسی یا کسی زمین مین دیکھنا	جہان واقع ہو وہان عذاب خدا نازل ہو۔
ملاح کو دیکھنا	علم حکمت نصیب ہو۔	مسواک کرتے دیکھنا	راست گوئی کی عادت ہو نیکو کاری کی خصلت ہو
مشعلچی کو دیکھنا	درمیان زن و شوہر کے بہتان ڈالے۔	مرغی واحد دیکھنا	زن خجستہ و مبارک ملے
موتراش کو دیکھنا	مرد متمول سے ضرر اٹھائے۔	مرغیون کی کثرت دیکھنا	باعث خوشی و شادی کا ہے۔
معلم کو مع اطفال کے مکتب مین دیکھنا	عمر دراز ہو۔		

ردیف میم

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
معلم یوز کا دیکھنا	ولایت وحکومت حاصل ہو	مشک دیکھنا	فرحت و مسرت کی دلیل ہے۔
ماہی گیر کو دیکھنا	ایضاً ایضاً	مباشرت بہائم وطیور معلوم سے کرنا	اور ونکی ساتھ نیکی کرے اگر نا معلوم ہو دشمن پر ظفر پاوے
مثنویات وغزلیات دیکھنا	گمراہ و دروغ گو ہو۔	موت و موتے دیکھنا	دین فاسد و دنیا حاصل ہو بشرطیکہ گریہ و بکا و جنازہ سر پر ہو
مصحف کو اپنے ہاتھ سے پھاڑ ڈالنا	منکر احکام خدا سے ہو	مرگ خود بغیر سامان جنازہ و غسل و کفن و دفن دیکھنا	دیوار مکان یا کوئی شی منہدم ہو یا کوری دین ہو بصارت دنیوی ہو۔
مصحف کے ورق کھالینا یا چبانا	کلام الٰہی سے مضحکہ کرے دین ضائع و برباد ہو۔	میت سے سوال وجواب کرنا	حسب جواب میت کے حال ہو۔
ماتم داری دیکھنا	شادی ہو اگر شادی دیکھے ماتم داری نصیب ہو۔	میت سے لینا۔	بہتر ہے برخلاف دینے کے
مرام ومقاصد کا مجتمع و کمال کو پونہچنا۔	تغیر احوال ونقصان مال ہو۔	میت کو بغیر طریق جنازے کی اُٹھانا	حاصل مال حرام ہو
مماکھی دیکھنا	مبارکی کی دلیل ہے۔	میت سے معانقہ یا مخالطت یا اُسکو قتل کرنا	عمر دراز ہو۔

ردیف میم

خواب	تعبیر خواب
میت کے ساتھ کسی مکان نامعلوم مین جانا	جلد مرجائے اور میت کے ساتھ لاحق ہو۔
میت یا مریض کا اپنے گھر مین داخل ہونا	وہ مریض یا صاحب خواب مرجائے۔
میت کو بیاہ دیکھنا	قبر مین نسبت اولاد و برادر کے سوال کیا جائے
میت کو روتے یا انگوٹھی اپنے ہاتھ سے لیتے دیکھنا	اگر صاحب ولد ہے تو ولد مرے یا مال ضایع ہو۔
موزہ و پوستین دیکھنا	اگر مسلم و چرم ادیم سے ہین باعث خیر ہے ورنہ بد ہے
مقنعہ و ازار دیکھنا	اگر اسمین خلل اور قباحت دیکھے وہ نسبت اُسکے شوہر کے ہو اگر بہتر دیکھے بہتر ہو۔
مندیل و گلوبند و گاؤتکیہ دیکھنا	اگر خلل دیکھے وہ نسبت خدم و حشم کی ہو بہتر دیکھے بہتر ہو۔

خواب	تعبیر خواب
موتیون کے بار اُٹھانے سے عاجز آنا	عالم بے عمل ہو۔
مقراض ہاتھ مین دیکھنا	انقراض وانقضاے عمر کی دلیل ہے۔
مقراض سے بال اپنے یا کسی کے کاٹنا	مال کثیر جمع کرے۔
ملائکہ اشراف کو دیکھنا	فراخی سال وکثرت بارش وکشایش رزق وارزانی غلہ کی دلیل ہے۔
ملائکہ کو مسجدون مین دیکھنا	اہل بلدہ کو دعا و نماز و صدقات و خیرات کی ہدایت ہے
ملائکہ کو بازارون مین دیکھنا	کمی ہنگ میزان پیمانے کی ممانعت کی ہدایت ہو
منارہ مسجد کا منہدم دیکھنا	دین مین خلل ڈالے یا مخالف دین کا موجب ہو
منی بغیر مباشرت کے نکلنا	باعث قتل انسان ہو۔

ردیف نون

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا	مراد دینی و دنیوی ہاتھ آوے انجام بخیر ہو۔	ناک اپنی دراز دیکھنا	شہوت زیادہ ہو عورت بدکار سے فائدہ ہو۔
نماز پڑھنا	گناہ معاف ہو صاحب اوصاف ہو۔	ناک بریدہ دیکھنا	افلاس کی نشانی ہے ذلت پیش آتی ہے
ناخن تراشنا	قرض دور ہو حاصل محبت و سرور ہو۔	ناک سے خون بہتے دیکھنا	مال مشقت سے پائے مگر جلد محتاج ہو جائے۔
نقارہ بجانا	ملک نیا پائے یا حکومت ہاتھ آئے۔	ننھی دیکھنا	کسی بڑی سرکار میں پیش ہو تنخواہ بیش ہو آرام دم خلائق ہو۔
ناچ دیکھنا	رنج دور ہو حاصل سرور ہو جو خود ناچے عورت منہ زور نکلے رات دن غل وشور کرے۔	ناک و پیشانی دیکھنا	بلند دیکھے بلند مرتبہ ہو کم دیکھے کم مرتبہ ہو۔
نیزہ دیکھنا	افسر فوج ہو نہایت اوج ہو۔	ناریل دیکھنا	شادی ہو غم سے آزادی ہو۔ یا تولد فرزند ہو۔ نہایت خرسند ہو۔
نرگس کا پھول دیکھنا	معشوق عاشق مزاج ملے غنچہ مہر والفت کھلے۔	نیم دیکھنا	اگر کھائے مرض سے صحت پائے اگر شاخ نیم ہلائے آتشک نکل آئے۔
نارنج دیکھنا	ماندہ ہونے کی علامت ہے مگر بعد رنج کے راحت ہے		

ردیف نون

خواب	تعبیر خواب
بنکاح کرنا	باعث فخر و حصول مرام ہے۔
نکاح زن مردہ سے کرنا	مرا یوس یعنی فوت شدہ پر قادر رہنا۔
نکاح اپنی زوجہ کو غیر سے کرتے دیکھنا	اسکے اقربا صاحب خیر و توانگر ہون۔
نکاح مادر یا خواہر یا زن قرابت دار سے کرتے دیکھنا	مشرف بزیارت خانۂ کعبہ شریف ہو۔
نکاح مرد مجہول و نامعلوم و جوان سے کرتے دیکھنا	دشمن پر ظفر پاوے۔
نکاح مرد معلوم و معروف سے کرنا	فاعل مفعول یا مفعول فاعل سے سلوک کرے۔
نقرہ بے سکہ دستیاب ہونا	زن نیک ملے۔

خواب	تعبیر خواب
نقرہ معدن سے پانا	ایسی جگہ سے عورت ملی جہان سے ملنے کی امید نہو
نصرانی یا یہودی اپنا ہو جانا	انکی دفع ایذا کرے۔
نماز قبلہ رخ پڑھنا	ہدایت خدا سے پاوے اگر نقصان دیکھے نقصان پاوے۔
نماز مین اپنی طرف سے کچھ زیادہ کرنا	ارکان اسلام مین لعن کرے شک مین پڑے۔
نماز جانب مشرق پڑھنا	طریقہ قادریہ کی طرف مائل ہو اسمین شامل ہو۔
نماز جانب مغرب بغیر قبلہ پڑھنا	فرقہ جبریہ کی طرف مائل ہو اس مین شامل ہو
نردبان چوبی پر چڑھنا	ترقی دین و اسلام ہو۔
نردبان خشتی پر چڑھنا	ترقی دولت ہو عروج مرتبت ہو۔
نارنج بکثرت یا متعدد پانا	مال طیب و اولاد صالح اللہ عطا کرے۔

ردیف نون و واوٗ

خواب	تعبیر خواب
نور یعنی روشنی مشعل یا نور آسمانی دیکھنا	باعث خیر و برکت ہے۔
نیولا دیکھنا	تعبیر شل گربہ ہے۔
وزان وکیال آپ کو دیکھنا	قاضی یا حاکم ہو۔
وزان وکیال کو ناچتے دیکھنا	قاضی عادل سے سابقہ ہو۔
وزان وکیال کو دیکھنا۔	قاضی سے معاملہ پڑے وہ حکم بجور کرے۔

ردیف واو

خواب	تعبیر خواب
وحشیان صحرا پر مالک ہونا یا انکا پاس آنا یا اُن سے مخالطت کرنا	مرد بیدین کے ساتھ سازگاری کرے اُس سے مرتبہ پائے
وحشیان صحرا سے نزاع کرنا	غالب ظفر پاوے مغلوب عاجز آوے۔
ویرانہ زمین مین آپ کو دیکھنا	گوچہ ضلالت نصیب ہو۔
ولایتی انار کھانا	مریض تندرست ہو تندرست مریض ہو۔
وظیفہ پڑھنا۔	بڑی کام سی چشم پوشی کری نیک کام سے ہم آغوشی کری
ولادت دختر دیکھنا۔	خوشی حاصل ہو۔
ولادت پسر دیکھنا	غم والم حاصل ہو۔
وصلی بنانا۔	حاکم کی طرف سے میر محلہ یا چودھری ہو یا اُس کے مزاج مین کُنبہ پروری ہو۔
وعظ کہنا۔	خلق کو نصیحت کری بد کردارون کو فضیحت کرے

ردیف واو و ہاے ہوز

خواب	تعبیر خواب
وضو کرنا	راست کرداری کی دلیل ہی نہایت عنایت رب جلیل ہے

ردیف ہاے ہوز

خواب	تعبیر خواب
ہواے تند دیکھنا	جہان دیکھے اُس سر زمین پر آفت آئے باشندون کی شامت آئے۔
ہدہد دیکھنا	حاکم عدل کا ملازم ہو یا سفر آخرت کا عازم ہو۔
ہنڈولہ دیکھنا	زن مہربان پائے عیش کا سامان بہم پہونچاوے
ہاتھی دیکھنا	بلاے سخت نازل ہو اگر تجارت کرے نفع قلیل حاصل ہو۔
ہرن دیکھنا	دختر نیک اختر پیدا ہو یا کسی معشوقہ پر دل شیدا ہو
ہدیہ بھیجنا	جسکو بھیجے اُس سے الفت و محبت ہو
ہوا پہ آپ کو اُڑتے دیکھنا	فن و کمالت مین فائق ہو شہرۂ آفاق خلائق ہو۔
ہار پہننا	شادی ہو غم سے آزادی ہو۔
ہنستے دیکھنا	غم کی دلیل ہے مگر قلیل ہے۔
ہرن کو بغیر قصد شکار قتل کرنا	کسی عورت سے مال حاصل ہو
ہنڈار کا دودھ پینا	خیانت و غدر کرے اگر قمر دیکھے دشمن سمجھے
ہلال کا اول اپنے مطلع پر سوا شب اول طلوع دیکھنا	وزیر یا بادشاہ اُسکے پاس آئے یا یہ جائے یا کوئی گم شدہ آئے یا کوئی امر جدید پیدا ہووے۔

ردیف ہائے ہوز و یائے تحتانی

خواب	تعبیر خواب	خواب	تعبیر خواب
ہوائے طیب و صاف دیکھنا	باعث مژدہ و برکت ہے اگر تاریک ہے رنج و غم ہے	یاقوت پانا۔	مال و دولت پائے۔
	ردیف یائے تحتانی	یابر پانا۔	عورت چالاک نہایت بیباک ملے۔
ید بیضا دیکھنا	ہاتھ کشادہ ہو دولت زیادہ ہو۔	یخ یعنی برف گرتے دیکھنا	آفت سخت ناگہاں ہو دولت دنیاوی زائل ہو۔
یاسمین پانا	عورت خوب صورت ملے عمر دراز ہو۔	یہودی و نصرانی دیکھنا۔	انکی ایذا دفع کرے اور انکا عیوب عزیز دل ہو۔

خاتمۃ الطبع

الحمد للہ والمنۃ کہ درین ایام فرخندہ فرجام کتاب طلسم روحانی در مطبع فخر المطابع واقع لکھنؤ باہتمام راجی غفران ارحم الراحمین محمد فخر الدین مہتمم مطبع بماہ رجب المرجب ۱۳۲۶ ہجریہ حلیہ طبع در بر کشیدہ مطبوع طبائع گردید ٭ ٭ ٭